

# ادا رسول

مؤلف

حضرت مولانا ابوالبریزیر محمد صالح فہیمند قادری حنفی

رجوع ابوالبریزیر

اسلامی کتب خانہ

اقبال روڈ، سیالکوٹ

لَا ترْفَعْهُمْ وَلَا تُنْكِحْهُمْ فَلَا يَجْزِي دَارُ الْقُولِ بِحُرْبَتِكِ لِيَعْضُلَ أَمْرَكَهُ  
أَنْ تُجْزِي طَاعَةَ الْكُوْرُ  
(سروره بجهات)

الحمد لله رب العالمين

حضرت وضو فرشتہ کے صحیح عقاید کا تکمیل کا نہ لائے شانزہ

# منهج القبول

از خدای خوشیه تازه‌تر ادب

اس میں بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ تابعین مجتہدین اور اولیائے کرام حضور علیہ السلام وآلہ وسلم کا ادب و احترام اور تعظیم و نکریم کس طرح اور کس حد تک کرتے تھے۔ اور یہم کو بھی فرض کس طرح ادا کرنا چاہئے۔ خاتمۃ اس کی تفصیل یہ ہے:-

**باب اول فضائل رسول۔ باب وحی و تعلیم و توقیر رسول۔ باب حمد** میں ادبی کتب

تاج - باب چهارم اندازه اعلمیت حضرت بنظر صحابه کرام

باب پنجم فاهم آداب بندگان باید سه متریق آداب  
باید تعریف کرد طبق آداب عجمی

ولفه از دلخواهی نموده و میگفت: من باید میتوانم  
نیای پنجم طبق ادب میتوانم

لر شنیدنی میرکو روی محمد صاحب سجاده نماین عنین و دین پیش از  
سال احمد بن ابراهیم فارسی فرسته آمده است

سالن میرزا نوی برایته و در  
۱۳۸۷

A circular diagram representing the Chinese calendar. It features a ring of twelve circular nodes, each containing one of the twelve animals of the zodiac: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig. The nodes are arranged clockwise. A horizontal line with arrows at both ends connects the first node (Rat) to the last node (Pig), indicating a cyclical relationship. The entire diagram is enclosed within a circle.

نام کتاب ————— مہرج القبول فی آداب الرسول  
نام صنف ————— مولانا ابوالبشیر محمد صالح رحمہ اللہ  
طبع ————— مکتبہ لغمانیہ اقبال روڈ سیاکوٹ  
ناشر ————— سال اشاعت ۱۹۸۰ میں اھر  
تعداد ————— (۱۰۰) ایک ہزار  
قیمت ————— ۵ روپے

واحد تقسیم کار

اسلامی کتب خانہ، اقبال روڈ، سیاکوٹ

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ  
يَنْ وَجْهِكَ الْمُنْزِلُكَ دُوْرِ الْفَتَرِ  
لَا يَكُنْ مِنَ الشَّنَّامِحَا كَانَ حَقِيقَةً  
بَعْدَ ازْخُنْدَابِرْگَ تُوْلَى قِصَّةٌ مُخْضَرٌ

## لِهَدَاءِ الْأَدَابِ

لِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَاحِبِ الْهِلَلِ وَالْكِتَابِ  
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ!

یہ بندہ مکتوب، ادب و تعظیم کے لکھن کا چکیں، آداب کے چند پھولوں،  
او تعظیمات کے متفہ و غنچوں کو ارادت و عقیدت کے رشتے میں مربوط  
کر کے گنبدِ خضرا کے آسمانہ علیا میں پیش کرتا ہے ہے  
لاق نبود قدرہ بیشان بُردن خار و نسیں صحر ایگستان بُردن!  
اما چکن کہ رسم موزوں باشد پاتے ملئے پیش سلیمان بُردن

ابوالبیشیر محمد صالح بن مولوی مست علی مرحوم

## نذرِ محبت

۱۴۰۰ھ

### تصنیف گھر افشاں منہاج القبول فی آداب الرسول

۱۹۸۰ء

### جلیل القدر ابوالبشر شیر مولانا محمد صالح نوراںہ مرقدہ

۱۹۸۰ء

ہورہی ہے شائع منہاج القبول جس میں ہیں تحریر آداب الرسول  
 جان ایمان و مسلم حبّت رسول یہ نہ ہو تو ہر عبادت ہے فضول  
 اتباع سرورِ کونین ہے بالیقین میں و سعادت کا حصوں  
 کیا سمجھی سلک عقیدت واہدا جس میں ہیں عشق و دفا کے تازہ پھول  
 ہے محمد صالح جن کا اسم پاک ذات اُن کی صدرِ اربابِ عقول  
 اہل دُنیا کو دیا درسِ خلوص اور سکھاتے ہیں محبت کے اصول  
 اُن کی روح پاک پر شام و سحر ہو عنایاتیں الہی کائز دل  
 بارگاہِ مصطفیٰ میں اے وقت مری  
 کاشش یہ نذرِ محبت ہو قبول

۱۴۰۰ھ

### اسیرِ خلوصِ اربابِ داش قمر بیزادی

۱۹۸۰ء

جُمِیْۃ المبارک

۱۴۰۰ھ رمضان المبارک

پذوانہ — صنیع بیالکوٹ

## عرضی ناشر

رب العالمین نے اپنی صفتِ ربیت سے ہر مخلوق کی تربیت کا کامل انتظام فرمایا ہے چونکہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات سے حسن و اکرم ہے اس لیے اس کی روحانی و جسمانی تربیت کا خاص اہتمام فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز سے کوئی خاص کام لینا اقصود ہو اس کے ساتھ ایسا ہی معامل کیا جانا چاہیتے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہماری تربیت کے لیے عمدہ و سیلے پیدا فرمائے۔

ان کی پیدائش کا مقصد اہل تعالیٰ کی عبادت و معرفت ہے۔ اس مقصد سے آگاہی اور اس کے حصول کا طریقہ جن ذرائع سے ہم مک خاتی کائنات نہ پہنچایا اور سمجھایا وہ تمام چیزیں ربتِ کریم کی پذیرہ مقبول ہیں اور بندہ کو اپنے مالکِ حقیقی سے قریب کرنے کا واسطہ ذریعہ خواہ وہ فرشتے اور رسول ہوں یا کتابیں اور صحیفے، سب قابلِ تعظیم ہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کو ہمارا محبوبِ حقیقی محبت کی نظر سے دیکھے اس کا ادب و احترام اس محبوبِ ازل کی کمالی محبت کی علامت ہے۔ لیکن افسوس بعض لوگ تعظیم و ترقی اور عبادت میں فرق نہیں کرتے اس لیے تعظیم کو عبادت کہہ کر اس کو ترک کر کے بے ادب اور مشتاخ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

یاد رہے کہ ادب و تعظیم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تعظیم کے نام پر جو چاہو کرتے جاؤ۔ ہماری شرعاً پاک ہیں برکام کی حدود مقرر ہیں، فقہاءِ کرام نے ادب و احترام کے جائز اور ناجائز طرقوں پر فقہ کی کتابوں میں مفصل بحث کی ہے جو اس سے راسہنمای حاصل کرنا ضروری ہے اور اپنے جاحدانہ کاموں سے باز رہنا چاہیتے۔

زیرِ نظر کتاب مہلک القبول میں قرآن و سنت اور بزرگانِ دین کی تعلیمات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ترقی، قرآن و حدیث اور علماء مشتاخ کے آداب کے صحیح طریقے بیان کیے گئے ہیں اس موضوع پر اور دو زبان میں ایسی جامع کتاب نظر سے نہیں گزری۔ اُمید ہے کہ اہل محبت حضرات اس کا مطالعہ فرمائے کہ خالق کی محبت ہیں مزید کمال پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں گے اور ناشرین و معاونین کو اپنی دعائیں میں یاد فرمائیں گے۔

احقر محمد اشرف مجبدی ۸ رمضان المبارک ۲۰۰۴ھ - مجدد آباد

# فہرست مہینہ حلقہ القبول

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱	سب سے پہلے حضور کا جنت میں داخل ہونا۔	۱۱	دیباچہ
۲۱	کوثر حضور کو ہی عطا ہوا ہے۔	۱۱	حمد و لغت
۲۱	مقام و سلیمانی صرف حضور کے لئے	۱۲	التماس
۲۲	سب سے پہلے حضور کا بہشت میں داخلہ	۱۳	باب اول
۲۲	نام اولین و آخرین سے زیادہ مکرم	۱۴	ذمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم
	جبریل کا براق سے حضور کی تمام مخلوق	۱۵	انبیاء و قبروں میں زندہ ہیں۔
۲۲	سے فضیلت بیان کرنا	۱۶	انجیل کرام کا قبروں میں نماز پڑھنا
۲۲	بیت المقدس میں تمام انبیاء و ملائکہ کی آمد	۱۷	روضہ مبارک پر روزانہ ستر بہار فرشتوں
۲۲	حضرت کا تمام انبیاء و ملائکہ سے بزرگ ہونا	۱۸	کا درود پڑھنا
	حضرت کے منکرو وزخمی۔ اور عرش پر	۱۹	حضرت تمام بني آدم کے سردار ہیں
۲۴	آپ کا نام مبارک۔	۱۹	اور سب سے پہلے شفاعت کا بیان۔
	حضرور مومن کے لئے سب پیزروں سے	۱۹	سب سے زیادہ تابعdar اور سب سے
۲۴	بڑھ کر محبوب ہیں۔	۲۰	پہلے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹانا۔
	حضرور کی اطاعت نہ کرنے والا جنت میں	۱۹	قیامت کے دن صرف حضور کا سورہ ہونا
۲۴	داخل نہ ہوگا۔	۲۰	لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں
۲۵	حضرت سے محبت رکھنے والا جنتی ہے۔	۲۰	قیامت کے دن حضور کا فخر
	حضرت کے گستاخ کو مارڈالنے سے قصہ	۲۰	حضرت کا عرش کی واہنی طرف لکھرا ہونا
۲۵	نہیں	۲۰	سب سے پہلے حضرت کا اپنی امت کو
۲۵	حضرت کی تعلیم صحابہ کی نگاہ میں	۲۰	پل صراط سے گزرانا۔
		۲۰	خوض کوثر پر سب سے زیادہ امت محسوسی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲	صحابہ کرام تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔	۳۴	حضرت کی تعظیم حیاً میتاً پس ضروری ہے
۳۳	ایک نابینے کا حضور کے توسل سے بینا ہونا	۳۵	ایک نابینے کا حضور کو ایذا دینا ہے۔
۳۴	حضرت کے چھا کے توسل سے نزولِ بالا	۳۶	ابو بکر و عمر کی اقتداء کا حکم
۳۵	حضرت کے روضہ مبارک کے توسل سے	۳۷	صحابہ کی اقتداء سے نجات۔
۳۶	بازش	۳۸	بابِ دوم
۳۷	سب سے پہلے حضور کا نور اور اس سے	۳۹	تعظیم و توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۳۸	تمام مخلوق پیدا ہوتی۔	۴۰	حضرت کی تعظیم کا لازمی حکم
۳۹	حضرت پیدائش آدم سے پہلے بھی نبی تھے۔	۴۱	نجات کا اختصار حضرت کی تعظیم و تکریم پر ہے،
۴۰	حضرت کا سب سے پہلے السُّتُر پرستِ کم	۴۲	اللہ تعالیٰ کا حضرت کے ادب کا الحافظ رکھنا
۴۱	کے جواب میں "بلی" کہنا۔	۴۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آذان سے اپنی
۴۲	حضرت کا خاندان سب سے افضل علی ہے	۴۴	آواز بلند کرنے کی ممانعت
۴۳	آنحضرت سے پیش وستی کرنے کی ممانعت	۴۵	جبریل اور فضیلۃ حضرت کا اظہار
۴۴	شانِ نزول	۴۶	آنحضرت آدم کی پیدائش کا باعث ہے
۴۵	اللہ تعالیٰ کامومنوں کو طریق ادب	۴۷	آدم و خواکا مہر درود شریف
۴۶	رسول تبلانا اور اہانت والے الفاظ	۴۸	حضرت ابو بکر و عمر اہل جنت کے سوار ہوں گے
۴۷	سے منع فرماتا۔	۴۹	فاطمہ زہرا اہل جنت کی عورتوں کی سردار
۴۸	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے	۵۰	حسن و حسین نوجوانوں کے سردار
۴۹	کی ممانعت۔	۵۱	حضرت کے اہل بیت سے محبت رکھنے کا حکم
۵۰	اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو نام سے پکارنا۔ مگر اپنے	۵۲	اہل بیت کی محبت موجب نجات اور غرض
۵۱	جبیب کو نہیں۔	۵۳	باعث ہلاکت۔
۵۲	حضرت کے ذاتی نام کی بجائے وصفی نام	۵۴	اہل بیت سے محبت نہ رکھنے والا کبھی
	لینے کا اصلی راز۔		مومن نہیں ہو سکتا۔

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
ابو جہل کا آنحضرت کی بے ادبی کے باعث ذلیل ہو کر مزنا۔	۵۳	لغت خواہی کا ثبوت لغتیہ اشعار کے جواز کا ثبوت	۵۴
امام ابو حینیفہ کی بے ادبی کے باعث غیبی تلوار سے مارا جانا۔	۵۵	ایو ایوب سختیانی کے عشق رسول کی کیفیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لگھر میں آواز	۵۶
اہانتِ رسول کا کفر ہونا	۵۷	دینے کی ممالعت بے ادبیوں کا بے وقوف ہونا۔	۵۸
انبیاء سے استہزاء اور اہانت کفر ہے کفر اور بے ادبی کے کلمات۔	۵۸	بلانے کا طریقِ ادب۔	۵۹
آنحضرت کی عظمت و بزرگی نہ کرنے سے آپ کو افیت پہنچنا۔	۶۰	باب سوم	۶۰
بے ادبی اور گستاخی کے تقاضا اور ضرر از مولانا روم۔	۶۰	بے ادبی کے نتائج آنحضرت کو ایذا دینے والوں پر وعید شدید	۶۱
باب چہارم	۶۰	طحیم صحابی کو فراسی بے ادبی کے باعث وعید شدید	۶۲
اندازہ عظمت حضرت بنظر صحابہ	۶۱	حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ادبی ملال باعثِ عذاب۔	۶۲
صحابہ کا طریقِ آداب رسول	۶۲	حضرت کی حکم عدوی سے عذاب کا نازل گتا آنحضرت کی بددعا کا اثر	۶۳
صدیق اکبر کا طریقِ ادب رسول	۶۳	آنحضرت کی حضرت کا نام بے ادبی سے لینے سے منع ٹیڑھا ہونا۔	۶۴
آنحضرت کی گستاخی کرنے پر حضرت ابکبر نے اپنے پاپ کو ظمانچہ مارہ دیا۔	۶۴	کفارِ مکہ کا آنحضرت کی بے ادبی کے باعث عذاب شدید میں مبتلا ہونا۔	۶۵
حضرت عمر بن خطاب کا طریقِ ادب رسول	۶۴	ابوالہب اور اس کی بیوی کا بے ادبی کے باعث عذاب میں مبتلا ہونا۔	۶۶
حضرت عثمان کا طریقِ ادب رسول	۶۵		
حضرت علی کا طریقِ ادب رسول	۶۶		
امثال امر نہ ہونے کی وجہ حضرت علی کا حضور کی اطاعت کے باعث	۶۷		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۶	بائی کہنا۔	۹۱	نماز عصر قضا کرنا۔
۱۰۷	آپ کے نام مبارک کا کفار بھی ادب کرتے ۱۰۶	۹۲	حضرت قبادث، عثمان و عیاس وغیرہ کا طریق ادب رسول۔
۱۰۸	امام مالک کا طریق ادب رسول	۹۳	حضرت براء بن عازب کا طریق ادب رسول۔
۱۰۹	امام بخاری کا طریق ادب رسول	۹۴	حضرت ابوہریرہ کا ادب رسول۔
۱۱۰	امام شافعی کا طریق ادب رسول	۹۵	حضرت اسلح بن شریک کا ادب رسول۔
۱۱۱	سلطان محمود غزنوی کا طریق ادب رسول	۹۶	امام جعفر صادق کا طریق ادب رسول۔
۱۱۲	باب پنجم	۹۷	امام مالک بن انس کا طریق ادب رسول۔
۱۱۳	فوائد آداب بنزگان	۹۸	حضرت ابوحنوزہ کا طریق ادب رسول۔
۱۱۴	حضرت کے ساتھ ادب سے گفتگو کرنے سے گناہوں کی مغفرت	۹۹	حضرت خالد بن ولید کا طریق ادب رسول۔
۱۱۵	ایک بدکار کا حضرت کے نام مبارک پر بوسہ دینے سے بخشاجانا	۱۰۰	امیر معاویہ کا طریق ادب رسول۔
۱۱۶	حضور کی حدیث لکھنے والے قلم کی تعظیم	۱۰۱	عبداللہ بن عمر کا طریق ادب رسول۔
۱۱۷	حضور علیہ السلام کے نام مبارک پر بوسہ دینے کا فائدہ۔	۱۰۲	حضرت رسول کریم کی تعظیم و تکریم کا زندگی میں اور بعد وصال پیش فوجیب ہونا
۱۱۸	تفصیل الابہامیں کے اثبات کے فضائل	۱۰۳	روضہ مبارک کے قریب میخ گاڑتے پر عالیشہ صدیقہ کا تہذیدی حکم۔
۱۱۹	حضرت کا نام مبارک لینے سے مردے کا زندہ ہونا۔	۱۰۴	مسجد بنوی میں چلا کر بولنے پر حضرت عمر کا تعزیری حکم۔
۱۲۰	احمد بن حنبل کی تعظیم و ادب کے باعث بخشاجانا۔	۱۰۵	امام مالک کا خلیفہ ابو جعفر کو مسجد بنوی میں چلا کر بولنے پر فرانٹنا
۱۲۱	بزرگوں کی طرف و یکھنے والی آنکھوں کا اثر۔	۱۰۶	صحابہ کرام کا حضور کے نام مبارک کے ساتھ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۲	حضرت حسام الدین چلپی کا ادب	۱۱۸	<b>باب ششم</b>
۱۳۳	رشد	۱۱۸	متفرق اداب
۱۳۴	باب سبقتم	۱۱۸	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توریت کا ادب
۱۳۵	طريق ادب	۱۱۸	کہنا۔
۱۳۶	قرآن مجید کی بے ادبی کرنے والے کا خمام۔	۱۱۸	حضرت کا انبیاء کی تصویروں کو مانے میں ادب کا لحاظ رکھنا۔
۱۳۷	تعظیم شعائر اللہ	۱۲۰	<b>آداب قبلہ</b>
۱۳۸	شانِ نبوت میں گستاخی	۱۲۱	آداب مرشد از مجدد الف ثانی قدس سرہ

# دیباچہ

## حمد و نعمت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمام تعریف پروردگارِ عالم کے لئے زیبای ہے جس نے ساری کائنات کو دائرہ ادب میں پیدا فرمایا۔ پھر ہر مخلوق کو اپنے قانونِ فطرت کے مطابق خاص نظام ادب کا پابند بنا کر پھنسا پھنسا دنختوں کو مُسود بانہ قیام۔ بہائم کو عاجزانہ رکوع بحشرات کو مستمندانہ سجدہ اور جبال کو صابرانہ قعود سکھایا۔ اسی طرح نہر کی روائی۔ دریا کی طغیانی۔ سحلی کی چمک۔ بادل کی گزج۔ ہوا کی نگ و دو۔ آسمان کی گردش۔ سورج کی تابش۔ ستاروں کی رفتار کا ایک

خاص ضابطہ ادب ٹھہرایا۔ اور ہر مخلوق کو اس ضابطہ کی بجا آوری پر مادر کیا۔ سہ

باد و نحک و آب و آتش بندہ اند  
بامن و تو مردہ باحق زندہ اند !!

جملہ ذرالت زین و آسمان لشکر حق اند گاؤ امتحان !

اور درودِ نافع و دو اس کے حبیب پاک سرورِ عالم فخر یعنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور اہلہ وسلم پر ہبھوں نے درسگاہِ غنیب سے احسن تاویب کا سبق لیا۔ اور اپنی صفات عالیہ اور اخلاقِ زاکیہ سے آداب و فضائل کا پہترین نمونہ انت کے سامنے پیش کیا جس نے اس نمونہ کی آفتابی کی وہ فائز المرام ہوا۔ اور جس نے غفلت اختیار کی وہ ناکام رہا۔ سہ

خلافت پیغمبر کے رہ گز پید

کہ ہر گز بمنشہ نہ خواہ رہید

اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّحْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَأَلْهِ وَ  
أَسْخَابِهِ وَسَلِّحْ لِتَسْلِيْهِمَا كَثِيرًا كَثِيرًا

# المحتوى

آں گرد ہے کہ ادب بگیرت ہے! آپ مروی و آپ مردال رخیقت  
 حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مندرجہ بالا شعر گویا سات سو سال پیشتر کی پٹکوئی  
 ہے جو آج کل کے مسلمانوں کے حق میں آپ نے فرمائی تھی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ادب  
 رسول کا جذبہ مجبت فرزند مجبت پدر و مادر مجبت وطن مجبت مال وجہہ تک کے تمام  
 جذبات پر غالب تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر صدر داد وجود  
 حرکت میں آنے لگتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب دین گرتے تو کسی نہ کسی  
 بات پر پڑتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف تکلم ہوتے تو ہزاروں حاضرین  
 اس طرح سکوت و سکون میں محبو ہو جاتے۔ گویا کسی میں حس و حرکت نہیں حضور صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو بقیہ مرآب کو لینتے اور منہ پر ملنے کے لئے لوگ ہر طرف  
 سے لامتحب پھیلا دیتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تراشہ ناخن یا موئے مبارک  
 گرتا تو لوگ ادب سے اٹھا کر احتیاط سے محفوظ رکھتے۔

یہی کمال ادب، یہی فرط عقیدت، اور یہی غایتِ مجبت جسم اسلام میں جان کا  
 کام کر رہی تھی۔ اور یہی وہ لحافت تھی جو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو الٹتی۔ اور  
 روما اور اپران تک کی عظیم اشان اور با اقتدار سلطنتوں کو پاٹمال کر قیچلی گئی۔ آج  
 مسلمانوں میں یہ طاقت مضھل ہو چکی ہے۔ آج مجبت رسول اور ادب رسول کا جذبہ سردار پڑ  
 چکا ہے۔ آج دشمنانِ اسلام ناموں رسول پر گستاخانہ تعدادی کرتے ہیں۔ تو شاذ و نادر کوئی  
 اکاڈمیک ارشادی رسول ہی باز پرنس کے لئے جان پھیلی پر لے کر نکلے تو نکلے، درنہ کافہ امت  
 پر عافیت پسندی کی وہ عنودگی طاری ہے کہ اس خارزار میں قدم رکھنے کی جرمات ہی نہیں  
 رہی۔ آج سوانح رسول اور حدیث رسول کی کتنا بیچ کبڑوں کی دکاون پر ایک متاع کا سد

کی طرح ردی خالقت میں پڑی ہیں۔ تو کسی کی رگِ حیثیت میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے اوراق پنساریوں کی پڑیوں کے کام آتے ہیں تو کسی میں جوش ایمان کا دلوںہ نمودار نہیں ہوتا۔ اس قسم کے اخبار جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ذکر اور احوال درج ہوتا ہے پر میں میں پایا ہوتے ہیں۔ دفتریوں کی دکانوں میں گندی زمین پرانے کے ڈھیر لگتے ہیں۔ اشاعت کے بعد ردی کی ٹوکریوں میں چوہوں میں۔ پاخانوں میں اور گندی نالیوں میں پہنچتے ہیں۔ مگر کسی مسلمان کے چند یہ ایمان میں حرارت پیدا نہیں ہوتی۔

یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان نہایت کمزور ہیں۔ ذیلیل ہیں وہ مترقب اقوام سے گئے ہیں۔ ادب رسول ہی مسلمانوں کی روح تھی۔ اسی رُوح کے بُل پر ترقی کے میدان میں وہ تاب دوٹی اور زور پر واڑ رکھتے تھے۔ اب فُری روح ناپید ہو چکی ہے؛ اس لئے ان کی حیثیت ایک جسم بے جان اور لاش میت کی سی ہے۔ کوئی اس لاش کو کسی طرح اٹھائے۔ کہیں لے جائے۔ کہیں چینیک دے۔ ان کو مطلق احساس نہیں۔

ادبِ رسول کے جذبہ کو سب سے پہلے فرقہ شیعہ کے ہاتھوں نقصان پہنچا جس نے کہا۔ صحابہ کے حق میں بے ادبانہ طریق سے منہکوں کر اسلام میں عام بے ادبی کافیت ہاب دوڑاڑہ کھوئی دیا۔ جسی کہ سپت اصحاب کا مکروہ فعل بھی اس فرقہ نے داخل عبادات سمجھ رکھا ہے۔ فَوَدْ بِاللَّهِ مِنَ الْجَهَلِ وَالضَّلَالِ، حَالَانَكَهُ كَالِيَارُ كَبَنَا دُنْيَاكَ کَسَى مَذَهَبٍ میں بھی بشرطیکہ وہ اپنے آپ کو ایک مذہب سمجھتا ہو۔ رو نہیں۔ اور اہل سنت کے ہاں تو فرعون نمودا اور ابو جہل حتیٰ کہ شیطان کو گالیاں دینا بھی کوئی رکنِ عبادت نہیں۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء المعلوم میں لکھا ہے۔ اس ترکِ ادب کی شامت پر ہے کہ یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا سب سے زیادہ حامی، ہواخواہ اور بدآج و متعقد سمجھتا ہے۔ اپنی روایات اور تمثیلات میں خود اہل بیت ہی کی اس قدر ہتھ حُوت اور تحفیض عزت اور تذلیل و تحقیر و تدوین کا مترکب ہوتا ہے جس کی کسی دشمن سے بھی توقع نہ ہو۔ پس اگر یہ لوگ اہل بیت کے دوست ہیں، تو سراسر نادان درست ہیں۔ سہ

مہر ابلہ مہر خرس آمد نیں! کیں او مہر است مہر اوست کیں!

عبد او سنت و دران وضعیف! گفتہ از فت و فکرے او نجف! اسی ترکِ ادب کی شومی سے اس فرقہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے لئے بھی پورا ادب و احترام نہیں۔ ہمارے ہاں درود شریعت پڑھنے کے کلمات عموماً بیوں ہوتے ہیں۔ اللہمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَیْنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ الْخَلَاقُ۔ مگر ان کے ہاں جب مجھے میں درود پڑھا جاتا ہے، تو نہایت غیر مودبائی لہجہ اور روکھے پھیکے اور غیر جاذب قلوب اذان سے پہ غل بلند ہوتا ہے۔ اللہمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ جسیں میں تھنور صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے نام پر سیدِنا و مولیتنا وغیرہ کے مودبائی الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ اور نہ اظہار عقیدت دا برادر محبت کے درسرے کلمات منضم کئے جاتے ہیں۔ جیسے اہل حست کے صلوٰۃ وسلام کے کلمات میں ما ثور و متوارثہ ہیں جن کے بہترین نمونے دلائل المیزات وغیرہ کتب صلوٰۃ میں موجود ہیں۔ پس یہ سب سب اصحاب کی شومی ہے۔

زخار کے کہ بر اسمان انگمنی سرو چشم خود رازیاں انگمنی!

فرقہ شیعہ کے بعد اسلام میں بے ادبانہ قول و عمل کا مركب وہ فرقہ ہے۔ بخوبی عقیدہ امام کا تارک ہے۔ اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ جسی طرح شیعہ لوگ جہور صحابہ خصوصاً حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو بے ادبانہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ آئندہ اربعہ خصوصاً امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر نہایت تخفیض شان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لئے مٹا ہے کہ حضرت شاہ اسحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس فرقہ کو چھوٹے رافضی کے نام سے موسوم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کا رفض کرنے والے طریقے رافضی ہیں۔ تو آئندہ کا رفض کرنے والے چھوٹے رافضی۔ تقلید کو ترک کر دینا یا اسکو اچھانا سمجھنا تو ایک علمی خلاف ہے۔ ہوا کرے۔ اور علمی و عملی اختلاف مخصوص اختلاف کی حد تک کوئی سو عادب نہیں مگر افسوس ہے کہ یہ لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عالمگیر مقبولیت اور ہفت اقليم میں ان کے سکتا اجتہاد کا روانح دیکھ کر حد سے بیتاب ہو جاتے ہیں۔ اور اختلاف کی معتمد حد سے نکل کر سو عادب اور گھستاخانہ کلام پر اتر آتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ دیکھنا ہو۔ تو بنارس کے ایک غیر مقدار مولوی کی کتاب الجرح علی ابی حنفیہ و مکہمی جائز ہے جس میں اس کے گندہ دہن

مُوْلَف نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو "سگ" جیسے ناپاک الفاظ سے یاد کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا۔ **نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ اٰنْجُوٰنِہ**۔ تاہم خدا پنج انگشت یکساں نکر دے۔ اس بیباک و شوخ پیش گروہ میں بعض ایسے منصفت مژاہ اور اعتدال پنہ اصحاب بھی موجود ہیں، جو اختلافِ عقیدت کے باوجود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی علوٰ شان کے معترض اور آن کی خدمتِ دین کے مٹا خوان ہیں۔ ہمارے ایک اہل حدیث دوست نے جوانہ نیک اوصاف سے موصوف ہیں، ایک واقعہ بیان کیا۔ جب دنوں قسم کی نظیروں کا رقص پیش کرتا ہے۔ ہمارے دوست سے ایک طالب علم نے جواہل حدیث کے ایک دارالعلوم میں تعلیم پاپا تھا۔ کہا کہ میرا خیال ہے۔ ہمارے مولانا دحمدش دارالعلوم (امام اعظم سے ڈرہ کرہیں) اس بات پر ہمارے دوست کو رنج پہنچا، اور اس کے جواب میں کہا۔ یہ مولانا تو مولانا ہوتے۔ اگر یہ بھی اور ان کے تمام بزرگ اور سارے شیوخ و اساتذہ بھی مل کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کے غلاموں کی خاک پاکی زیس کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔

آج کل ایک تیسرا دور ثقیر ہے، جو دنیا کے سیاسی انقلابات کا نتیجہ ہے، اس میں مذہب اور مذہب کے آداب اور بانیان نما مذہب کی وقعت و عزت دلوں سے اٹھتی جا رہی ہے۔ روس اس انقلاب کا عالم بردار ہے۔ جس کے نزدیک خدا اور مذہب کوئی چیز نہیں صرف انسانی تحریکات کا نتیجہ ہے، حقیقت میں چوکچھ ہے۔ وہ دولت وجاه ہے۔ تمام ظاہری و باطنی تو قیسی اسی کے لئے صرف کرنی چاہیں۔ روس کی اس تحریک کے ماتحت قلمروئے روس میں گرجاؤں کا صفا یا ہر رطہ ہے، اور قیاس غالب ہے۔ کہ چند روز میں یہ عالم ہو گا کہ روس کی طویل و عربیق قلمرو میں کسی عبادت کا گاہ کائنستان تک نظر نہ آئے گا۔ اور نہ کوئی مقنیف خدا کے نام سے آشنا ہو گا۔ یہی دبای پر پت کے دوسرے مہاک میں پھیل رہی ہے۔ اور اس کے اثر سے آجھل نوجوانان ہندوستان دیاک دہنہ اجن میں مسلمان۔ ہندو ہو سکھ۔ پارسی وغیرہ سب مذاہ کے لوگ شامل میں مٹا شہر ہوئے جا رہے ہیں۔

اُن نوجوانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نہ ہندو ہیں، اُن مسلمان۔ ہم تو اسی ہندوستانی میں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو مذہب سے ناخدا ہے مذہب سے۔ اور بانی مذہب سے۔

کوئی سردار نہیں، ہمارا تن من دہن تو صرف ملک کی مالی و اقتصادی ترقی کے لئے وقت ہے وہ لوگ اہلِ مذہب کو معتقد ان انبیاء کو اور عبادوں زاد کو مخفی فاتح العقل اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو عقل کل جانتے ہیں۔ ان کے دل میں خدا کی رسول کی کعبہ کی اور قرآن کی اسقدر بھی وقت نہیں جبقدر اڑ پر سفیدی ہوتی ہے۔

مصحف بزیر پاپے گزارند از غزوہ دستار عقل از سر جبریل واکنستہ!  
اسی دورِ فتن کے ناقابل بیان حالات پر مولانا کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ ہے  
آل گروہ سے کزانِ دب بگری سختند!! آپ مردانہ آپ مردی ریختند!

یعنی جن اسلامی فرقوں کے متعصب لوگوں نے اور جن دنیا طلب نوجوانوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت اپنے دل سے اٹھادی۔ اور آپ کے حق میں بیساکا نہ بخواں کرنا اپنا شیوه بنایا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے مذہب کی اور اپنے اکابر اہل مذہب کی عزت کو داغدار کر دیا۔

چواز قوے یکے بدیاشی کردا! نہ کہ رامنژلت باندر نہ مسہ را  
لہذا خاکسار نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ اس گمراہی کے عالم میں حق کی آواز بلند کروں۔ شاید کوئی  
دیدہ بینا اور گوش شذوا ادھر متوجہ ہو جائے۔ اور اس کی ہدایت کا باعث ہو۔ وَمَا تُوْفِيقُ  
إِلَّا بِاللَّهِ عَلَمَنِيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ إِنِّيْهِ أُنِيبُ۔

آخر میں میں اپنے مکرم و محترم دوست جناب حکیم مولوی میرزا محمد نذری صاحب عرشی شاذ مشنوی مولانا روم کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنہوں نے اس مسودہ کو اول سے آخر تک  
بالاستیعاب پڑھ کر جا بجا حک و ترمیم سے اس کی اصلاح اور کئی جگہ مفید بالتوں کا اضافہ کیا۔  
بجزاہ اللہ عن اخیر الخوار.

ابوالبشریہ محمد صالح بن مولوی مسٹر علی مرحوم میرزاں والی

صلح سیاکوٹ (پنجاب)، ۲۴ ربیع الاول ۱۳۷۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# بَابُ اول

## فَضَالِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بعقول الکوٰں دھرم کلہ ادب اسلام کا تمام تر مدارادب پر ہے۔ اسلام کے مختص ہیں سر صحیح کا دینا یعنی امر حق کے لئے اعتراف کا سرخم کر دینا۔ جو ادب کی خاصیت ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ دین سراپا ادب ہے۔ اگر ادب نہیں تو دین بھی نہیں۔ ادب کس کا کیا جاتا ہے یہ جس کو پانے سے برتر اور افضل سمجھا جائے۔ کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر تر وافضل کون ہو سکتا ہے سچ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پس آپ کی تعظیم اور آپ کے لئے رعایت ادب بھی اسقدر لازم ہے، جو خداۓ تعالیٰ کے بعد اور کسی کا حق نہیں۔ بعض بیناک اور بے ادب لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کو کا حقہ نہیں مانتے۔ اور وہ آپ کو معاذ اللہ بیشتر میں مٹھنے جانتے ہیں۔ حالانکہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلق سے پر تر واعلاءٰ تر بانا جائے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔

غیر حفظ مراتب نکتی زندیقی دلوں کی قسمت اسے

کوہ درستادن فہمت را چہ سو و ان رہبر کامل کہ خضراء اب بیوائی شدہ نے اور دسکتہ را مدارج النبوت اور موہب اللہ نیہ میں مرقوم ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر صرف لآلہ لآلہ پڑھتا ہے۔ وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ رسول نار و مرحمة اللہ علیہ نے تکنوی معنوی میں ایک جگہ خوب بنا یا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سے لوگوں کے

برابر سمجھتے ہیں۔ وہ صورت پرست ہیں کیونکہ ان کو رسول اور عیز رسول کی صورت یکسان نظر آئی ہے حالانکہ فرق مراتب کا باعث امر معنوی ہے جس سے رسول رسول ہے اور عیز رسول عیز رسول ہے گریب صورت آدمی انسان پذیرے  
احمد و بو جہل خود بخسان پذیرے

احمد و بو جہل درست خاتم رفت زین شدن تاشدی قریبیت رفت  
آں در آید سر نہت د اور اہتاں ایں در آید سر نہد پچوں امتاں!

جمع انبیاء علیہم السلام عمرؑ اور جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً ادب و تعظیم کے متعلق کیوں ہیں؟ اس لئے کہ وہ تمام بھی آدم بلکہ جبلہ ماورائے جن تعالیٰ سے افضل ہیں۔ اب ذرا ان کی افضلیت کی وجہ سُن لیجئے

انبیاء رواولیام کے جسم کو زمین ہیں [ابن حاجہ میں ابو الدزاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھاسکتی اور وہ قبر میں زندہ ہیں] اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم مبارک کو کھاسکے پس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔

تمام امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ قبر میں پیش ہو ہیں [مذاہب کلیتیہ میں ابن المبارک نے سعید بن المیتب علیہ و سلم کے روپ قبر میں پیش ہو ہیں] نہیں ہے کہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت کے اعمال صحیح و شام پیش نہ کئے جاتے ہوں۔

انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں [سینہقی وغیرہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت داری مشرکت میں پذیری بن وہب سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں (مراہنگہ)] روضۃ مبارک پر ہر روز نئے [کعب احرار رضی اللہ عنہ عالیہ صدیقة رضی اللہ عنہا کے ستر ہزار فرشتے اگر درود پڑھتے ہیں] پاس آئے اور عاضرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا ذکر کیا تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا جیسی میں ستر نہار فرشتے نہ آتے ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو بازو مارتے ہوئے احاطہ کر لیتے ہیں۔ اور آپ پر درود پڑھتے ہیں یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان پر حیرت ہے جاتے ہیں ہا اور دوسرے فرشتے اُسی طرح کے اور گاترتے ہیں۔ اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے دن زمین قبرشق ہوگی تو آپ ستر نہار فرشتوں کے ساتھ پاہر شریف لاٹیں گے کہ وہ آپ کو کے چلیں گے۔

حضرت بروز قیامت تمام بني آدم کے سردار ہونگے اور سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعة است قبل عالمی رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں سردار ہونگا اول آدم کا دیینتی محل آدمیوں کا، قیامت کے روز اور میں اُن سب میں پہلا ہوں گا جن کی قبرشق ہوگی (الیعنی سب سے اول میں قبر سے اٹھوں گا) اور سب شفاعة است کرنیوالوں سے پہلا شفاعة است کرنیوالا میں ہوں گا۔ اور سب سے اول میری شفاعة قبل کی جائیگی۔

سب سے زیادہ تابع دار حضرت کے ہونگے صحیح مسلم میں الش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور سب سے پہلے بہشت کا دروازہ آیہ کھلکھلے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے پہلے بہشت کا دروازہ آیہ کھلکھلے نے قیامت کے روز میرے تابعین ہر پیغمبر کے تابعین سے زیادہ ہوں گے۔ اور میں سب سے پہلے بہشت کا دروازہ کھلکھلے ڈالے گا۔

قیامت کے روز حضرت ہی معاہب اللذیں میں ابن زنجیرہ سے برداشت کثیر ان مرہ حضرتی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ فرمایا رسول سوار ہوں گے باقی سب پریل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) میں قیامت کے روز

براق پر ہوں گا۔ اور میں اُن کے ساتھ تمام انبیاء میں سے اُس روز مختص ہوں گا۔ لوار الحمد قیامت کے دن حضرت صحیح ترمذی میں ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

میرے ہاتھ میں قیامت کے روز لوار الحمد ہو گا۔ اور یہ میں فخر کی راہ سے نہیں کہتا۔ اور جتنے نبی میں آدم بھی اور آن کے سوا اور بھی وہ سب میرے اُس لوار کے لیے ہونگے۔

**قیامت کے روز کی ایک امور میں** صحیح ترمذی اور دار می میں جابر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہو گا

نے میں سب سرپرہلے قریبے نکلوں گا جب لوگ میعرفت ہوں گے۔ اور میں انکا پیشہ و نہنگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی پیشی میں آئیں گے۔ میں ان کی طرف سے شفاعت کے لئے بات چیت کروں گا جب وہ خاموش ہوں گے۔ ان سب میں مجھ سے شفاعت کے لئے درخواست کی جائے گی جب وہ متوقف میں حساب ہے مجبوس کئے جائیں گے۔ میں ان کا بشارت دیتے والا ہوں گا جب وہ ناہید ہو جائیں گے۔ کرام اور ہر خیر کی نجیاب اُس دن میرے ہاتھ میں ہونگی۔ اور لوار الحمد اُس روز میرے ہاتھ میں ہو گا۔ اور میں اپنے پروردگار کے نزدیک تمام بني آدم سے زیادہ کرم ہونگا۔ ایک بزار خادم میرے میرے اکرام و خدمت کے لئے میرے پاس آمد و رفت کریں گے۔ اور ایسے حسین ہوں گے کویا کہ وہ بیضی میں جو غبار وغیرہ سے محفوظ ہوئی یا موتی ہیں جو بھر سے پڑے ہوں۔

**حضرت ہی عرش کی دامنی طرف کھڑے ہو گئے** صحیح ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حبّت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑہ پہنایا جائے گا۔ بھر میں عرش کی دامنی طرف کھڑا ہو گا۔ کہ کوئی شخص خلافت میں سے بجز میرے اُس مقام پر کھڑا نہ ہو گا (غالباً یہ مقام محروم ہے)۔

**پلصراط سے سب سے پہلے حضرت** صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں سے بھنم کے وسط میں اپنی امت کو لے کر گزر دیں گے پلصراط قائم کیا جائے گا۔ سو سب رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر گزر دیں گا۔

**لوضن کوٹ پر سب سے زیادہ امت محمدی ہو گی** صحیح ترمذی میں سہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہر بھی کا ایک حوصلہ ہو گا اور وہ سب اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے حوصلہ پر لوگ زیادہ آتے ہیں۔ اور مجھ کو امید ہے کہ تمیرے حوصلہ پر لوگ بہت آئیں گے کیونکہ میری امت زیادہ ہو گی۔

سب سے پہلے جنت میں حضور علیہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قیامت کے الصلوٰۃ والسلام ہی داخل ہو گئے روز جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا۔ خارجِ جنت پوچھیا گئے کہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہا گا کہ آپ ہی کی نسبت مجھ کو حکم ہوا ہے کہ آپ کے قبل کسی کے لئے نہ کھولوں۔

کوثر صرف حضور علیہ الصلوٰۃ امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوثر کی پیزی والسلام ہی کو عطا ہو گا۔ ہے؛ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہ ہے جو مجھ کو میرے پر درگار نے عطا فرمائی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیری ہے۔

مقام و سیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہو گا! و سلم نے جب تم مون کی اذان سننا کرو تو جو وہ کہے تم بھی کہا کرو۔ پھر مجھ پر درد بھیجا کرو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درد بھیجا ہے اس پر اللہ تعالیٰ دنی بار رحمتیں بھیتا ہے۔ پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کیا کرو اور وہ وسیلہ جنت میں ایک درج ہے کہ تمام بندگان خدا میں سے اس کا مستحق ایک ہی بندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہنگا۔ سو جو شخص میرے لئے وسیلہ کی دعا کریگا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو گی۔

منہ امام احمد میں ابو سعید خدراہی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ارشاد نبوی ہے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں وَ لَسْوَتْ يُعْطِيْكَ ذَلِكَ بَرَارِ مَحْلٍ جَنْتَ میں ملیں گے فَتَرَدَضَی مروی ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہزار محل جنت میں دیتے ہیں اور ہر محل میں آپ کی شان کے لاکن ازو اوح اور خادم ہیں دروایت کیا اس کو ابن حجر اور ابن القاسم نے)

سب سے پہلے حضرت کو ہی بہشت صحیح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں داخل ہونے کی اجازت ملگی۔ رسول نے میں سب سے پہلے جنت کا حلقة ملاؤ تو اللہ تعالیٰ میرے لئے دروازہ کھول دے گا۔ اور مجھ کو اس میں داخل فرمائے گا۔ اور میرے ساتھ فقراء مُمنین ہوں گے۔

حضرت تمام اولین و آخرین سے زیادہ مکرم ہیں | صحیح ترمذی اور دارمي میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین میں زیادہ مکرم ہوں۔

جبراہیل برائق سے حضرت کی تمام | صحیح ترمذی میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب معراج مخلوق کی نسبت فضیلت پیدا کر لی گی میں برائق حاضر کیا گیا۔ تو وہ سوار ہونے کے وقت شوٹی کرنے لگا۔ جبراہیل علیہ السلام نے فرمایا کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایسا کرتا ہے۔ تجھ پر تو ایسا کوئی شخص سوار ہی نہیں ہوا ہے۔ جوان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہو۔ پس وہ (شرم سے) سیدنا پیدیہ ہو گیا۔

بیت المقدس میں تمام انبیاء اور طالبکہ امام احمد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زادی میں آپ کے مقیدی ہے اور آپ امام ہوئے کہ جب آپ شب معراج کو پہنچت المقدس میں

تشریف لائے۔ اور نماز پڑھنے کا حرطہ ہوئے۔ تو تمام انبیاء اپنے کے ہمراہ مقصدی ہو کر  
نماز پڑھنے لگئے۔ اور ابو سعید کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر فرشتوں  
کے ساتھ نماز ادا کی ویعنی فرشتے بھی مقصدی تھے، پھر انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے  
لائقات ہوئی۔ اور شب نے اللہ تعالیٰ کی شناصر کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کئے جب تھے  
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خطبہ کی ثبوت آئی۔ جس میں اپنے اپنے اپنے حجۃ للعالمین ہونا اور مبعوث  
اللہ کافیہ الناس ہونا۔ اور اپنی امت کا خیر الامم و امانت وسط ہونا۔ اور خاتم النبیین ہونا بھی کہیا  
فرمایا۔ اُس کو سُن کر حضرت ابراهیم علیہ السلام فرمیا۔ اپنیا کو خطاب فرمایا۔ بدھ کے  
فضائل کو محمدؐؒ یعنی ان ہی فضائل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بڑھ کے  
رمواہیہ اللہ تعالیٰ (۱)

**حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاؤ** دار فی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی  
ملا کر سے پڑھ کر نزدگ میں ہے کہ اسہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر فضیلت دی۔ اور اسمان والوی یعنی فرشتوں پر بھی۔

**حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر و وزخ میں داخل ہوئے** انس رضی اللہ عنہ سے  
اپ کا نام مبارک عرش پر لکھا ہوا ہے! تعالیٰ نے موسیٰ علیہ

السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ کو اس حالت  
میں لے گا کہ وہ احمد کا منکر ہو گا۔ تو میں اُس کو وزخ میں داخل کر دن گا جواہ کوئی ہو۔ مُسیٰ  
علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اسے مُسیٰ نے قسم ہے اپنی عزت و جلال

کی۔ میں نے کوئی مخلوق میں پیدا نہیں کی جس میں کوئی ان سے زیادہ میرے نزدیک کوئی ہو۔ میں نے  
ان کا نام عرش پر اپنے نام کیسا تھا اسمان دنہ میں اور شمس و قمر پیدا کرتے ہے میں لاکھ سو سما پیٹھے  
لکھا تھا۔ قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی۔ کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے۔ جب تک کہ محمد اور  
آن کی امت اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ الحمد للہ۔ (روایت کیا اسکو علیہ میں)

کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب پھریوں سے زیادہ محبوب نہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہو گا جب تک کہ میں اُس کے تذکرہ اُس کے والد اور اولاد اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔

صحیح بخاری میں عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں بھیز میرے نفس کے جو میرے پہلو میں ہے۔ یعنی وہ توبہت ہی محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک خود اُس کے نفس سے بھی زیادہ اُس کو میں محبوب نہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کہ قسم ہے۔ اُس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ کہ آپ میرے نزدیک اُس نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں جو میرے پہلو میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اب بات ٹھیک ہوئی۔ دعاء رب اللہ نیہ سے

ہر کارادوست تراز خود نداز رانہ است۔ گرچہ آردویک جہاں طاعت برداشت و اذن  
حضرت جمال الدین سیدوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسند حدیث اپنی کتاب جامع ضمیر میں

لعل کی ہے۔

کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَدِبُّوا وَلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ خَصَالٍ  
حَبَّتْ فِيهِنَّ كُمْرٌ وَحُبَّتْ أَهْلٌ بَيْتِهِ وَقِرَائِعَةً الْقُرْآنِ الحدیث یعنی اپنی اولاد  
کو تمیں باتوں کی تادیب کرو۔ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، دوسرے  
ان کے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ تیسرا قرآن مجید رکھنا۔ ایک

جو شخص حضرت کی اطاعت میں ہیں صحیح بخاری میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے  
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری  
کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا। تمام امرت جنت میں داخل ہو گی مگر جس نے میرا کہنا

قبول نہ کیا۔ عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہیں کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی۔ وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی۔ اُس نے قبول نہیں کیا۔

جو شخص حضرت سے محبت رکھتا | صحیح ترمذی میں اس رضی اللہ عنہ سے مردی شریعت میں دل خل ہو گا | ہے۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ جنت میں دل خل ہو گا | اُنے جس نے میری سُنت سے محبت کی۔ اُس نے

محب سے محبت کی۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی۔ وہ میرے ساتھ جنت میں ہو گا۔ مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی۔ وہ میرے ساتھ جنت میں ہو گا۔

حضرت کے حق میں گستاخی کرنیوالے | ابو داؤد کتاب المحدود میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی سے کہ ایک نابینا کی ایک کو مارڈا لئے سے قصاص نہیں لیا جاتا | اُمّ ولد تھی۔ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

شان میں یہودہ حکایت کہا کرتی۔ اور گستاخی کیا کرتی تھی۔ وہ نابینا منع کیا کرتا۔ وہ بازندہ آئی وہ اُس کو ٹوٹانٹا۔ مگر وہ نہ مانتی۔ ایک رات اسی طرح اُس نے کچھ بکنا شروع کیا۔ اس نابینا نے ایک چھڑائے کر اُس کے پیٹ میں بھونک دیا۔ اور اس کو ہلاک کر ڈالا۔ صحیح کو اس کی تحقیقات ہوئی۔ اُس نابینا نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اس کا اقرار کیا۔ اور تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا۔ سب گواہ رہو۔ کہ اس کا خون رائیگاں ہے۔ یعنی قصاص وغیرہ نہ لیا جائیگا۔

حضرت کی تعظیم و تکریم صحابہ کی نگاہ میں | امام بخاری نے کتاب الشروط میں قصہ

اس میں بھی ہے۔ کہ عروہ بن مسعود رضیں نکلنے آپ کی مجلس شریف سے مکہ واپس چاکر لوگوں سے بیان کیا۔ کہ اے میری قوم واللہ میں پادشاہوں کے پاس گیا ہوں۔ اور قیصر و کسری ونجاشی کے پاس گیا ہوں۔ واللہ میں نے کسی پادشاہ کو منہیں دیکھا۔ کہ اس کے مصاحب اُس کی استقدار تعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ جب کھنکا رپھنکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچتی ہے۔ اور وہ اُس کو اپنے

چہرہ اور بدن کو مل لیتا ہے۔ اور جب آپ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں۔ تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور جب آپ وضو کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بہالت ہو جاتی ہے۔ کہ وضو کا پانی یلنے کے لئے کویا اب لڑپڑیں گے۔ اور جب آپ کلام فرماتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست کر لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے تک نہیں۔ الحمد للہ۔

**حضرت علیہ السلام و تکریم حنفیا و** جس طرح حضور علیہ الفضلاۃ والسلام کے سامنے رفع صوت جائز تھا۔ اسی طرح آپ کے کلام کے درس اور **ہلیٹا بیکساں ضروری ہے۔** شرع کے احکام کی نقل کے وقت بھی رفع صوت خاریں و سامنے کے لئے خلاف ادب ہے۔ اور اسی طرح محل جمیع شریعت کے قریب بھی پرانچہ مولانا بہب اللہ نبی میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین ابو جعفر منصور خلیفہ عباسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسلم مسجد نبوی میں گفتگو کی تو امام مالک حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تم کو کیا سُمّا اُس مسجد میں آواز مت بلند کر کو حضور نبی کا احترام وصال کے بعد وہی ہج رو جو حالتِ حیات میں تھا، سو ابو جعفر درب گیا۔ پرانچہ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں مردی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو شخص اہل طائف کو تهدید ریا فرمایا تھا۔ کہ تم مسجد نبوی میں اپنی آواز بلند کرتے ہو۔ واللہ اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہارے دُڑے لگاتا۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ یکا یک آپ کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ مگر آپ درس میں مشغول ہے۔ اور کوئی حرکت نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ آپ کا رنگ بدلتا گیا۔ مگر پھر بھی آپ سے کوئی بات ظاہر نہ ہوئی۔ اور بدستور درس حدیث پر متوجہ ہے تیسرا مرتبہ پھر آپ کا چہرہ متغیر ہوا۔ انتہے میں درس بھی ختم ہو گیا۔ تو آپ نے اپنی قمیض کو اٹھایا۔ تو اس میں سے سرخ زنبور نکلی۔ جس نے متواتر تین مرتبہ آپ کے جسم میں کامٹا۔ مگر آپ نے محض حدیث کے ادب سے پہلے پندرہ کیا کہ قمیض کو اٹھائیں۔ یا زنبور کے کامٹنے کی جگہ کو کھجولائیں۔ یا حاضرین سے اسکا ذکر کریں جس سے درس میں القطاع لازم آئے۔

مکن ز غصہ شکایت کو در طریق ادب براحتی تر سید احمد نے حسنه تکشید کیا۔

**ایک نابینا شخص مخصوص حضرت** [ابن ماجہ باب صلوٰۃ الحاجۃ میں عثمان بن حنفیت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نابینا نبی کے توسل سے بینا ہو گیا! صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو عافیت دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے، ان کو ملتوی رکھوں۔ اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تو چاہے۔ تو دعا کر دوں۔ اُس نے عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ دضو کرے۔ اور اپنی طرح دضو کرے اور دو رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے۔ اللہم انی استدللت وَالْوَجْهَ الْمُكَبِّرُ  
مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ الرَّحْمَةٌ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَوَّلَمْ يَرَى فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضِيَ فِي الْمُهَاجَرَةِ  
شَفَعَةٍ فِي يَعْنَى اے اللہ! میں درخواست کرتا ہوں۔ اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے یار رسول اللہ! میں آپ کے وسیلہ سے اپنی اس حالت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گا۔ تاکہ وہ پوری ہو وے۔ اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجئے۔ یہی میں ہے کہ وہ انہا کھڑا ہو گیا اور بینا ہو گیا۔

علمائے محققین ارقام فرماتے ہیں کہ یا محمد کی بجائے یار رسول اللہ کہنا چاہئیے کیونکہ نام مبارک لیکر لپکارتے ہیں بے ادبی ہے۔

**حضرت کے چھپ کے توسل** [صحیح بنخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب لوگوں پر قحط ہوتا تو حضرت سے نزول باراں ہونا۔] عباس رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے بارش کی دعا کیا کرتے اور فرماتے کہ اللہ! ہم لی پہلے، آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کیا کرتے تھے۔ آپ ہم کو بارش دیتے تھے۔ اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے پیغمبر کے چھپ کا توسل کرتے ہیں۔ سو ہم کو بارش دیجئے۔ چنانچہ بارش ہو جاتی تھی۔

**حضرت کے روشنہ مبارک** [دارمی میں ابو الجوزی اور رضی اللہ عنہ سے دروی ہے کہ مدینہ کے توسل سے بارش کا ہونا۔] میں سخت قحط ہوا۔ لوگوں نے عالیہ حددیقہ رضی اللہ عنہا

سے مشکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اُس کے مقابل آسمان کی طرف اُس میں ایک منفذ کر دو۔ یہاں تک کہ اُس کے اوپر آسمان کے درمیان حجاب نہ ہے پھر اسے پھانچے ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی۔

سب سے پہلے حضرت کافور مبارک پیدا عبد الرزاق نے اپنی مسند میں حضرت جابر  
ہوا۔ پھر اس سے تمام خلوق پیدا ہوئی کی کہ میں نے عرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ  
پر قدما ہوں۔ مجھ کو تجہہ دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی؟ آپ  
نے فرمایا لے کے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کافور اپنے نور سے پیدا کیا۔  
پھر وہ نور قادرت الحمد سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منتظر ہوا سپر کرتا رہا۔ اور اُس وقت نہ لوح تھی  
نہ قلم تھا۔ اور نہ بہشت تھی اور نہ درخخ تھا اور نہ قریش تھا اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی اور نہ سویح تھا  
اور نہ چاند تھا اور نہ ہوتھا اور نہ انسان تھا پھر حب اللہ تعالیٰ نے اور خلوق کو پیدا کرنا چاہا۔ تو اُس نور کے  
چار حصے کے اور ایک حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیرے سے عرشِ الحدیث  
از ظلماتِ عدم را کہ برداۓ بروں۔ گردنہ شد یے نور تو تمیح روائی ہمہ

حضرت پیدا کی ادم سے پہلے نبی تھے احمد بیہقی اور حاکم شے عرباض بن سازیہ رضی  
حضرت پیدا کی ادم سے پہلے نبی تھے ایضاً اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیک میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ اور  
آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خیری میں پڑے تھے۔ یعنی ان کا پستلابھی تیار نہ ہوا تھا سے  
آدم سروتن درآب و گل داشٹا کو حکم بملک جان وتن داشت

حضرت سب سے پہلے الحدیث ابی سہلقطان کی امالی کے ایک جزو میں سہل بن صالح  
ہدایت سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ میں نے  
بَرْتِكَمَرَ کے جواب میں لای کیا ابو عیفر محمد بن علی زینی امام محمد باقرؑ سے پوچھا کہ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدیم کیسے ہو گیا۔ حالانکہ آپ سب کے آخر میں  
مبعوث ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یعنی آنکی پیشوں

سے اُن کی اولاد کو عالم میثاق میں نکالا۔ اور ان سب سے اُن کی ذات پر یہ اقرار با کہ کیا میں تھیں ارب نہیں ہوں۔ تو سب سے اول جواب میں بھی (کیوں نہیں) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لہذا اسی لئے آپ کو تمام انبیاء سے تقدیم ہے، لگو آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔

**حضرت کے خاندان کا سب صحیح متذمّدی میں عیّاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں محمد ہوں سے افضل و اعلٰٰ ہوئنا۔ عبد اللہ کا بیٹا۔ اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ**

نے جو مخلوق کو پیدا کیا۔ تو مجھ کو اچھے گرد میں بنایا۔ یعنی انسان بنایا۔ پھر انہیں میں دو فرقے میدا کئے۔ عرب اور عجم۔ مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا۔ پھر عرب میں کبھی قبیلے بنائے در مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا۔ یعنی فرشت میں۔ پھر قرشی میں کئی خاندان بنائے در مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا۔ یعنی بنی هاشم میں۔ پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں۔ اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ الحدیث

**ضریل کا حضرت کی دلائل ابو نعیم میں عائلہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔** فضلیت کا اظہار کرنا ذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جریل علیہ السلام نے کہا۔ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا میں نے کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا۔ اور نہ کوئی خاندان بنی هاشم سے افضل دیکھا۔ **وَلَنِعْمَ مَا قَبِيلَ لَهُ**

**آقا قہاگر دیدہ ام مرہ بیان در زیدہ ام** بسیار خوبیں دیدہ ام لیکن تو چیزیے دیگری **حضرت آدم کی پیدائش کے باعث ہوئے** حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہش بر لکھا دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ تو میں تم کو پیدا نہ کرنا۔

**آدم کی خطہ حضرت کی وسیلہ سے معاف ہوئی** حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدم علیہ السلام سے خطاب کا  
صدر درہما۔ تو انہوں نے جواب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اکے پروردگار! میں آپ سے  
بواسطہ محمد رضی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کرتا ہوں کہ میری معقرت کر دیجئے۔ اللہ  
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم! تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا؟  
حالانکہ ہنوز میں نے اُن کو پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کیا کہ اے رب! میں نے اس طرح  
سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ساتھ سے پیدا کیا۔ اور اپنی فرح میرے اندر بھجوئی  
تو میں نے سر جو اٹھایا۔ تو عرش کے پالیوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ  
رَسُولُ اللَّهِ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ اپنے ہی شخص  
کے نام کو ملا یا ہو گا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا  
کہ اے آدم! تم پچھے سو۔ فی الواقع وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیار ہیں۔ اور جب تم نے  
اُن کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی ہے، تو میں نے تمہاری معقرت کی۔ اور اگر محمد  
صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ (روایت کیا ہے میں نے اپنے دلائل میں  
اور حاکم اور ظبرا فی نے)

**آدم و حوا کا مہر درود** ابن الجوزی نے اپنی کتاب صلاۃ الاحزان میں ذکر کیا ہے  
کہ جب آدم علیہ السلام نے حوا علیہما السلام سے قربت کا  
شرکف مقرر کیا گیا۔ ارادہ کیا۔ تو انہوں نے غیر طلب کیا۔ آدم علیہ السلام نے  
دعا کی کہ اے پروردگار! میں ان کو مہر میں کیا چیزوں؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم! میرے  
حبیبہ محمد بن عبد اللہ دصلی اللہ علیہ وسلم پر میں دفعہ درود بھجو۔ چنانچہ انہوں نے  
ایسا ہی کیا۔

**حضرت کے صحابہ ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے** صصح ترمذی میں المس رضی اللہ عنہ سے اور ابن ماجہ میں  
عمر اہل جنت کے سردار ہونگے

الله علیہ وسلم نے۔ ابو بکر اور عمر درضی اللہ عنہما، بجز  
انپیاء و مرسیاء کے تمام اگلے اور پچھلے مہیا نہ غرداںی اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ (یہ  
فضیلت بھی آپ کی فضیلت کے سبب ہے ہے) ۶

فاطمہ زہرا اہل جنت کی عورتوں کی صحیح ترمذی میں حدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سردار ہوئی۔ اور حسن جسین نوجوانوں کے فرشتہ آیا ہے جو اس شب سے قبل کبھی زین پر نہیں آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ مجھ کو اگر سلام کرے اور مجھ کو بشارت دے۔ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام اہل جنت کی بیویوں میں سردار ہوئی۔ اور حسن جسین رضی اللہ عنہا تمام اہل جنت کے جوانوں میں سردار ہوئی۔

**حضرت کے اہل بیت سے صحیح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت**  
**مجبت رکھنے کا حکم** ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے اس لئے مجبت رکھو کہ وہ تمہیں کھانے کو غمیں دینا ہے۔ اور مجھ سے مجبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجبت رکھنے کے سبب سے (معنی) اللہ تعالیٰ حب محبوب ہے۔ اور میں اس کا رسول اور محبوب ہوں۔ اس لئے مجھ سے مجبت رکھو اور میرے اہل بیت سے مجبت رکھو میرے ساتھ مجبت رکھنے کے سبب سے۔ (المعنی حب میں محبوب ہوں۔ اور اہل بیت میرے منصب و محبوب ہیں۔ تو ان سے بھی مجبت رکھو)

**اہل بیت کی مجبت موجب نجات** احمد بن الوزیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں سے اور بعض وعداوت باعث بلاکٹ ہوئے تھے۔ کہ میرے اہل بیت کی مثالاں تم میں ہی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جو شخص اس میں سوار ہوا۔ اس کو نجات ہوتی۔ اور جو شخص اس سے چدار ہلاک ہوا۔ یعنی ان کی مجبت و متابعت موجب نجات ہے۔ اور بعض و مخالفت سبب بلاکٹ ہے۔

صحیح ترمذی میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم میں یہی دو چیزیں پھپوتا ہوں۔ کہ اگر تم ان کو تھانے رہو گے۔ تو کبھی میرے بعد گراہ نہ ہو گے۔ اور ان میں ایک چیز دوسری سے ٹڑی ہے۔ ایک تو کتابت اللہ کہ وہ رتی ہے آسمان سے زین تک۔ اور دوسری میری عترت یعنی اہل بیت۔ اور ایک دوسرے سے کبھی جدا

نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ دلوں پرے پس حوض پر چھپیں گے تو ذرا خیال رکھنا کہ میرے بعد ان دلوں سے کیا معاملہ کرتے ہو۔

**جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں** ترمذی شریف میں عبدالمطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام رکھنا وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔

والسلام نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہ ہو گا جب تک تم لوگوں سے کہ میرے اہل بیت ہو، اللہ اور رسول کے واسطے محبت نہ رکھتے۔

**سوال۔ بعض سید صحیح النسب سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو کیا ان سے بھی محبت رکھنی چاہئے یا نہیں؟**

**جواب:-** یہ محبت بعض اللہ اور اُس کے رسول کے سبب سے ہے جب کوئی شخص اللہ اور رسول ہی کا مخالف ہے تو اُس سے محبت بھی نہ ہوگی۔

**صحابہ کرام کو لوگوں سے بڑھ کر ہیں** نسائی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی صحابہ کرام کو اُن لوگوں سے بڑھ کر ہیں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصحاب کا اکرام کر دے کہ وہ تم سب میں بہتر ہیں۔

**جس نے صحابہ کو ایذا دی گویا** صحیح ترمذی میں عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درود اللہ سے درود میرے اصحاب کے باسے میں

میرے بعد ان کو نشانہ (اعترافات کا) نہ بتانا اور جو شخص ان سے محبت کر لے گا وہ میرے محبت سے ان سے محبت کر لے گا اور جو شخص ان سے تعجب رکھے گا وہ میرے تعجب کی وجہ سے ان سے تعجب رکھے گا۔ اور جو ان کو ایذا دے چکا اُس نے مجھ کو ایذا دی اور جس نے مجھ کو ایذا دی۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی بہت حبل اللہ تعالیٰ اُس کو پکڑے گا۔

**صحابہ کی خیرات کے ثواب کے برابری کو ثواب نہیں ملتا** صحیح بن مسلم میں ابوسعید خدراوی رضی

اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصحاب کو  
بڑا نہ کہو۔ کیونکہ اگر تم میں کوئی شخص احمد پھر اڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی ان صحابہ  
کے ایک مدد (۲۰ پاؤ) بلکہ نصف مدد کے درجہ کو بھی نہ پہنچے۔

**ابو بکر اور عمر کی صحیح ترمذی میں حدیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں کی اقتداء کرنا بخوبی امر کرنیکا حکم  
بیرے بعد ہوں گے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔**

**صحابہ کی اقتداء سے نجات ملیت ہے** | رذیں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا

صحابہ مثل ستاروں کی ہیں جس کی اقتداء کر دو گے، ہدایت پاؤ گے۔ یہ فضیلت بھی حضور  
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل ہے۔ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔

الحاصل وہ شخص جو عقل سلیم رکھتا ہے، مذکورہ بالاحادیث صحیحہ کے مطابعہ سے یہ  
نتیجہ نکال سکتا ہے کہ واقعی جیپ خدا شرفِ انبیاء اور ان کے خواص و اقارب اور دوست  
و آشنا کی شان و غنائمت تمام مخلوق سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور آپ بے تکمیر اور بے مثل  
انسان ہیں۔ کوئی شخص آپ کے مرتبہ کو اپنے نہ پہنچا سکتا ہے۔ اور نہ ہی پہنچ سکتا ہے  
سپردہ جا بتوہر کس زبردست رفت توئی بجاۓ ہر ہیچ کس بجاۓ تو نیست

بعض بے ادب لوگ اپنی جہالت سے انبیاء و اولیاء کے ساتھ ہمسری کا دعا لے کرتے ہیں۔

ایسے نادائر کے لئے مولانا نے روم اپنی مشنوی میں کیا اچھا و عنظ فرماتے ہیں۔ سند

کار بکار راقیاں از خود مگیر

گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

چملہ عالم زین سبب گراہ نشد!

کم کسے زا بمال حق آگاہ نشد!

اشقیاء را دیده همیشنا نہ بود

ہمسری با انبیاء بود لا تشد!

گفت اینک ما بشر ایشان بشر

ما دیشان بسته خوابیم و خوریا

ایں ندانستند ایشان از عما!

یعنی نزدگوں کے افعال کو اپنے اور قبایل دکر د۔ اگرچہ ظاہر میں دونوں عمل بحیان میں جزو طرح  
خیر و شیر لکھنے میں بحیان میں ماکثر لوگ اسی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں، بلکہ اولیا امام اللہ کے  
حالات سے کم واقف ہوتے ہیں۔ شق و مکون کو دیدہ بننا مبتنی نہ ہوئی۔ اپنے اور بڑے اُن کی  
نظر میں بحیان نظر آتے تھے۔ اس وجہ سے حضرات انبیاء ر علیہم السلام سے ہمسری کا دعوے  
کیا۔ اولیا ہئے کرام کو اپنی مثل سمجھا۔ اور کہنے لگے کہ ہم بھی بشر ہیں، زینہ انبیاء ر بھی بشر ہیں  
ہم اور زینہ دونوں خواب و نورش کے مقید ہیں۔ یہ ان کو کوئی دل سے نظر نہ آیا کہ دونوں کے  
درمیان بے انتہا فرق ہے۔

اس کے بعد مولانا صاحب اس پرچند مثالیں بیان فرماتے ہیں:-  
ہر دو یک گل خود زنبور و نحل۔ یک زین شد نیش و زان دیگر عمل  
ہر دو گوں آہو گیا خود زند و آب۔ زین پکے سرگین شد و زان مشک ناب  
ہر دو نے خود زند ایک آب خود۔ اگر پکے غالی و آن پُرہ از شکر!  
صد هزار ان ایں چنیں اب شیاہ ہیں۔ فرقِ شاہ ہفتاد سالہ راہ میں!  
مثال اول۔ دونوں قسم کے زنبور ایک ہی قسم کے چھوٹ چوتھے ہیں۔ یعنی جس طرح کے چھوٹ  
ایک کی غذا ہیں۔ وہی دوسرے کی۔ بلکہ ایک کے صرف نیش پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے سے  
شہد پیدا ہوتا ہے۔

دوسری مثال۔ دونوں قسم کے آہو یہی گھاٹ اور پانی کھاتے اور پیتے ہیں۔ ایک سے صرف  
سرگین پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے سے مشک خالص حاصل ہوتا ہے۔  
تیسرا مثال۔ دونوں قسم کے نے ایک ہی گھاٹ پانی پیتے ہیں، بلکہ ایک تو غالی یعنی نرکل اور دوسرا  
مشک سے پُر ہوتا ہے۔ یعنی نیشکر۔ اسی طرح لاکھوں نظائر دیکھ لو۔ اور ان میں بہت سدا فرق ملا خطا  
کرو۔ خلاصہ یہ کہ دو پیروزیوں کے کسی ایک امر میں شرکیں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ باقی  
تمام پہلوؤں سے بھی بحیان ہیں۔ بخ

ایں خوردگر دلپیڈی زوجدا! وائ خوردگر دلپیڈی نور خدا!  
ایں خورد زاید ہمہ بخشش وحدا! وائ خورد زائد ہمہ عشق احدا!

یعنی اس طرح سمجھو کر کہ اشقیا را اور اتعیا رمیں بہت سافق ہے۔ ایک طعام کھاتا ہے تو اُس سے پلیدی و خسل و خدر پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کھاتا ہے۔ تو اُس سے تمام تر نور خدا یعنی عشق الہی پیدا ہوتا ہے۔

ایں زمین پاک و آن شور است وید	ایں فرشتہ پاک و آن دلیواست و دو
ہر دو صورت گر بھر ماندرواست	آب تلخ و آب شیریں راصفا است
جز کہ صاحب ذوق نشاند شراب	اوشناسد آب خوش از شورہ آب
جز کہ صاحب ذوق نشاند طعوم	نشہد ران خود رہ کے داند نہ موم!

اس میں شفی اور سعید کے فرق کا بیان ہے کہ ایک مثل پاکتہ زمین کے ہے۔ یعنی سعید اور دوسرا مثل زمین شور کے ہے یعنی شفی۔ اور اسی طرح ایک مانند فرشتہ کے ہے یعنی سعید اور دوسرا مثل شیطان و درنده کے ہے۔ یعنی شفی۔ اس تفاوت کے ساتھ بھی اگر ظاہر ا دونوں مثابہت ہو، تو ممکن ہے وکیھو آب شور اور آب شیریں میں کتنا فرق ہے، مگر ظاہر صفائی کی صفت دونوں میں ہے۔ اس فرقِ معنوی کو ہر شخص نہیں سمجھتا، مثلاً پئی کی چزوں کو فہری پہچانی کا جس کی قوتِ ذائقہ درست ہو، اسی کو تمیز ہو گی کہ یہ شیریں پانی ہے اور یہ شور۔ اسی طرح مذون کے تفاوت کو وہی پہچانی کا جس کی قوتِ ذائقہ صحیح ہو۔ اسی طرح شہد اور موم کے مذربے کے فرق کو بے کھلائے کپ سمجھ سکتا ہے، حاصل یہ کہ اسی طرح جب تک ذائقہ باطنی صحیح نہ ہو۔ نیک و بدیں دیکھ کر وہ ظاہر میں تباہی پہلوں (امتیاز نہیں) ہو سکتا۔ یہ

کافران دریدند احمد را بشر  
ایں نے داند آں شق القمر

---

## بَابُ دُوْمٍ

### لِعْظِيمٍ وَتَوْقِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کرنے کا لازمی حکم! میں ارشاد فرمایا۔

إِنَّا إِنَّا سَكَنَنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا أَهْلَ الْقُوَّمِ مِنْ نَّاسِ الْأَرْضِ وَرَسُولُهُ وَالْعَزْرَ وَكَا

وَلَوْقَرُ وَلَاطٌ

لعنی بشیک بھیجا ہم نے آپ کو دائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ (کہ اپنی امت کے احوال اور جملہ انبیاء کی تبلیغ رسالت پر قیامت کے روز گدای دیں) اور خوشخبری دینے والے اور ڈرست انیسوالے۔ تاکہ تم لوگ ایمان لاو۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول پیر اور تعظیم و توقیر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

ظاہر اسیاق آیت شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میوثر کرنے سے آپ کی تعظیم و توقیر ایک مقصود اصلی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ لام علت کے تحت میں بیان فرمایا۔

نجات کا اختصار محض حضرت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم پر ہے! اعراف رکوع ۹ میں ارشاد فرماتا ہے۔ فَالَّذِينَ أَفْنُوا يَهُ وَغَرَّرُوا فِي وَلَصَرُّ وَكَأَ وَابْتَغُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أَوْ الْيَتَمَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہیجی پس جو لوگ ایمان لائے ان پر دینی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور تعظیم کی اُن کی اور مددی اُن کو اور پیروی کی اُس نور کی کہ آثار اگیا ہے۔ ان کے

ساختہ یعنی قرآن مجید۔ یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے کیونکہ ملاعنة کا یہ مقاعدہ ہے کہ جب مند پر ضمیر آئے تو وہ حصر کا افادہ کرتی ہے چنانچہ اُلْلَهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا مطلب یہ ہوا کہ رستگاری اور نجات خاص اُنہیں لوگوں کو ہے جن میں یہ سب صفات مذکورہ بالامוגردد ہوں۔

**محمد عربی کا بروئے ہر دوسراست** نکیکہ خاک درش نسبت خاک برسراو

**اللَّهُ تَعَالَى كَأَحْفَرَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَى قَرَآنَ مجِيدَ میں متعدد مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ادب و آداب کے بارے میں تاکید و سلم کے ادب کا لحاظ رکھنا۔**

فَمَا تَرَكْتَ  
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ لَقُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ لَذَّا قَسْبَتْنَا  
بِهُتَّانَكَ عَظِيمَهُ لَيَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِشْلَهِ أَبَدًا أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
یعنی اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنایا تو بدل اُٹھئے کہ نہیں لائق ہم کو کہ ایسی  
باست زبان پر لا میں۔ الہی تو یا پک ہے۔ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے۔  
کہ پھر بھی ایسا نہ کرنا۔ اگر تم مسلمان ہو۔

منافقوں نے عالیہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نسبت ایک ایسی بات مشہور کی تھی۔ جس کی حکایت بھی انہوں نے بھی جاتی ہے جب بطرف اُس کا چڑھا ہونے لگا۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس خبر کو حیرت سے آپس میں ذکر کیا۔ مہر حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر میں نہایت حلم کو حاضر فرمایا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ کب گوارا تھا۔ کہ اپنے عبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں کسی قسم کا دھبہ مسلمانوں کے خیال میں لگئے چنانچہ اسی وقت غیرت کو بر مایی جوش میں آئی اور کمال عتاب سے فرمایا کہ اس خبر کے سنتے ہی تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے۔  
پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ تم پر کھلے۔ ورنہ عذاب شدید میں مبتلا کئے جاتے۔  
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ **وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً فِي الدُّنْيَا وَآخِرَةً  
لَمْ تَكُمْ فِيَّا أَفْضَلُمُ فِيَّ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ وَإِذْ تَلْفَقُونَهُ بِالْسَّتْكِمْ وَ**

بلند کیں۔ جبکہ آپ کے پاس قبیلہ بنی تمیم کے سوار آئئے۔ ایک نے کہا کہ اقرع بن حابس جو قبیلہ بنی مجاش میں سے ہے امیر مقرر ہو۔ دوسرا نے کسی اور کیلئے اشارہ کیا۔ نافع کہتے ہیں مجھ کو اُسکا نام یاد نہیں رکھ۔ اسوقت ابو یکنے عمر سے کہا۔ اس معاملہ میں تم صرف میری خلافت کرتے ہو۔ میر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ میں تمہاری خلافت نہیں چاہتا۔ اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ این ذہیر کا قول ہے۔ کہ پھر تو عمر کا یہ طریقہ ہو گیا۔ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہیں گے کہ یہ تم نے کیا کہا۔ عمر کی کوئی بات سمجھ نہ سکتے تھے

(درداء البخاري في تفسير سورة الحجرات)

موسیٰ بن النبی نے المسن بن عالک سے روایت کیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو تلاش کیا۔ تو ایک شخص نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں اپنے پاس ان کی خبر لائے دیتا ہوں۔ پھر الجھے گئے۔ تو ان کو اپنے گھر میں سر جھکنا بیٹھے پایا۔ پڑھتا گئے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثابت نے کہا۔ بُرًا حال ہے۔ میں اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی رکھا کرتا تھا اس لئے میرے عمل نا بود ہو گئے۔ اور میں دوزخی ہو گیا۔ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

كَلْبٌ بَنِي دَمْيَمٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمْ  
بِالْأَكْرَبِ نَبْنِ حَنَابِسٍ أَخِي بَنِي جُجَا شَعَّ  
وَأَشَارَ الْأَخْرَى بِرَجْلِ الْفَرْقَانِ نَافِعٌ  
لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَزْرَ  
مَا أَرَدْتَ رِأْيَنِي قَالَ مَا أَرَدْتُ  
خِلَاقَكَ فَأَرْتَقَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ هَنَا فِي  
ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا يَاهُ الَّذِينَ  
اَمْنَوْا لَا تُرْفَعُوا اَصْوَاتُكُمْ الْآيَةُ  
قَالَ ابْنُ الرَّبِيعِ فَمَا كَانَ بِعْرَمٍ  
لَيْسِ بِعِرْمٍ دَسْوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ  
(رسالة البخاري في تفسير سورة الجاثية)

ر٢٤ عَنْ مُوسَى بْنِ هَالِئَيْهِ عَنْ أَلْسِنِ بْنِ  
مَا لَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَفْتَهَدَ ثَابَتَ بْنَ قَيْسِ  
فَقَالَ رَجُلٌ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ أَنَّا  
أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ  
فَوَجَدَ كَاجَةً إِلَسَابِيَّ فِي بَيْتِهِ  
مُنْكِسًا رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ مَا  
يَشَاءُكَ فَقَالَ شُرُّكَانَ يَدْرِي فَعَلَّ  
مَنْوَاهُهُ فَوَقَّعَ صَوْتُ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ

کے پاس آیا۔ اور عرض کیا کہ ثابت رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں موسیٰ کا قول ہے کہ وہ شخص ثابت کے پاس دوسری مرتبہ بہت بڑی بشارت لیکر آگئا۔ آپ نے حکم دیا کہ ثابت سے کہہ دو کہ تم دوزخیوں میں سے نہیں ہو۔ بلکہ جنپیوں میں سے ہو۔

رجانچہ وہ جنگ یادہ میں شہید ہوتے ہیں من اہل الجنتہ۔ دروازہ الجاری فی تفسیر سورۃ الجوہرۃ آپت کا یہ مطلب نہیں ہے جو ثابت رضی اللہ عنہ نے سمجھا۔ بلکہ بے ادبی سے شور کرنا پیغمبر کے رد پر و منع ہے اور جس کی پیدائشی آواز بلند ہو تو وہ معذور ہے۔

سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیا با ادب تھے۔ اور دل ہست در خوار از برائے غالب آں  
چون شنیدی تو خطابِ لا تخف  
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کی اجازت چاہی اور اتفاقاً عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بڑی آواز سے بولتی سننا۔ آپ نے گھر میں جا کر عائشہ کو طمانچہ مارنے کے لئے پکڑا اور یہ کہا میں تم کو دیکھتا ہوں کہ اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی کھٹتی ہو۔ اسوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حَطَّا عَمَلَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ  
النَّارِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَاتَلَ كُنَّا  
وَكَذَا فَقَالَ مُوسَىٰ فَرَجَعَ إِلَيْهِ  
الْمَرْأَةَ الْأَخْرَىٰ بِبَشَارَةٍ عَظِيمَةٍ  
فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ أَنْكَثْ  
لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلِكُنَّكَ  
مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ دروازہ الجاری فی تفسیر سورۃ الجوہرۃ

میں کس قدر خوف و خشیت تھی۔ وہ  
لَا تَخَافُوا هُنْتُ نَزِيلٌ خَالِفُوا!  
نے زور یا ترس و نئے از موچ و کفت  
رسٰعِنَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُسْتَاذَةَ  
أَبُو بَكْرٍ عَلَى التَّسْبِيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ فَسَمِيعَ حَمْوَتَ عَالِشَةَ عَالِمَيَا  
فَلَمَّا دَخَلَ تَمَّا وَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَ  
قَالَ أَلَا أَذْلِكَ تَمَّا فَعَيْنَ صَوْلَتِ عَلَيْهِ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَمْحَزُ لَا وَخَرَبَعَ أَبُو بَكْرٍ مُخْضَبًا  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو بکر صدیق کو رکھتے رہے۔ اور ابو بکر خفاہ کر  
چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر  
صدیق کے چلے جانے کے بعد فرمایا۔ کیوں دیکھا  
میں نے تم کو ایک مرد کے لامتحب سے بجا لیا تھا  
کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق نے چند یوم توقف کیا  
اور ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کے پاس آئیکی اجازت چاہی۔ اور یہ دیکھتا  
کہ دونوں نے صلح کیا ہے۔ ابو بکر نے کہا جس  
طرح تم دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں داخل کر  
لیا تھا مُصلح ہیں بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے فرمایا۔ اچھا ہیں منظور ہے اچھا ہیں

جین حَرَّاجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ دَأْتِي  
الْقَدَّ تُلَكَ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ  
أَبُو بَكْرٍ أَيْمَانًا ثُمَّ أَسْتَأْذَنَ عَلَى  
رَسُولِ اللَّهِ حَنَّةَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَوَجَدَهَا قَدِ اصْطَطَحَهَا فَقَالَ  
لَهُمَا أَدْخِلَايْنِي فِي سُلْمَكَمَا كَمَا  
أَدْخَلْتُمَا إِلَيْنِي فِي حَرْرٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا أَدْ  
فَعَلْنَا

رواہ ابو داؤد فی  
(کتاب الادب)

الحاصل غور کرنے کا مقام ہے کہ صرف اتنی یہے ادبی کہ بات کہنے میں آواز بلند ہو جائے  
اس کی یہ شراحت ہر انگریز کے صحابی کرام کے تمام اعمال اور عمر بھر کی چال فشنائیں جیسے اکارت ہو جائیں  
جن کے ایک عمل کے برابر ہماری ساری عمر کے اعمال نہیں ہو سکتے تو پھر اپنے صحیح خدیشوں میں وارد ہے  
کہ اگر کوئی شخص کوہ احمد کے برابر سوتا خیرات کرے تو صحابی کی ایک مدد بلکہ آدمی مدد کے برابر نہیں ہو  
سکتا جس کا وزن پاؤ میر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس شراکو دیکھئے تو وہ شرا ہے جو کافروں  
کے واسطے مقرر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کو رکوع ۳۷ میں فرماتا ہے۔ اُولَئِكَ  
جَبَطَتْ أَعْمَالَهُمْ حَرَّاجٌ وَ فِي التَّارِهُمْ خَلِدُونَ وَ يَعْنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ہو گئے ان کے اعمال اور یہی لوگ اگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اس کامنشا کیا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ  
والسلام کا حلم کچھ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ بلند آواز سے بات کرنا تو کیا کافروں نے دنیا  
سوار ک کو شہید کر دیا۔ اور طرح طرح کی اُو تیں پہنچا ہیں۔ مگر کچھ نہ کہا۔ بلکہ اور دعا ہیں دین رشقا

تو واضح کی یہ کیفیت تھی کہ پس اوقات دست بوسی سے منع فرمادیا۔ اس ارشاد کے ساتھ کہ یہ چیزوں کا طریقہ ہے کہ اپنے سلاطین کی دست بوسی کیا کرتے ہیں۔ اور یہی ایک شخص تمہیں میں کاہوئی۔ حالانکہ حدیث شریف سے دست بوسی بلکہ پابوسی ثابت ہے۔ (شفا) اگر کوئی تعظیم کے لئے اٹھنا چاہتا تو منع فرمادیتے۔ حالانکہ خود حدیث شریف سے اس قیام کی اجازت ثابت ہے۔ (شفا)

الحاصل اس قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سی تواضع اور اخلاق دوسرے سے ممکن نہیں۔ اور یہونکہ ہر سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہ اخلاق تھے جنکی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے۔ اَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی یقیناً آپ بہت بڑے خلق پر ہیں۔ اور خوش خلقی کا جز واعظہ یہی صفت ہے۔ کیونکہ یہ بات تو سچرپہ سے بھی ظاہر ہے کہ جس میں تواضع نہیں ہوتی۔ وہ شخص خوش خلق نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کے اخلاق درست ہوتے ہیں۔ اس میں تواضع ضرور ہوتی ہے۔

غرض حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تواضع اور خوش خلقی کی وجہ سے وہ آداب جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ متعلق ہیں مسلمانوں کو شرعاً معلوم ہونے کی کوئی صورت نہ تھی، سو ائے اس کے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بیان فرمادے رہنا سچا ایسا ہی تھا کہ اس آیت شریفہ میں ایک ادنیٰ سی بات کو ذکر فرمایا۔ کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رد پر و پیکار کے بات کرے، اُس کے ساتھ اعمال انکارت اور بریاد ہو جائیں گے۔ پس عقلمند کو چاہیے کہ اس پر قیاس کر لے کہ جب ادنیٰ سی بے ادبی اور گستاخی کا انجام پہ ہو تو اور گستاخیوں کا کیا حال ہو گا۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ اتنی سی گستاخی کی جو اسقدر سخت سزا ہے اگر کوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی درخواست نہ تھی۔ بلکہ اسکا منشاصرف نعیت الہی تھا۔ کہ اپنے عجیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرشان کسی قسم سے نہ ہونے پائے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ خالق و ترسان رہتے تھے۔ کہ کہیں کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جس سے غیر اہلی جوش میں آ جائے۔

از خدا خواہ پر م توفیق ادب سے بے ادب محروم نامہ از فضل رب  
 پھر حبیب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس علم سے تشریف لے گئے تو کیا ہو سکتا ہے  
 کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبوبت میں یا غیرت کبریٰ میں کرنے فرق آگئا ہو۔ الخود باللہ  
 من ذلك، کوئی مسلم اسکا قابل نہ ہو کارکینہ صفاتیٰ الکمیہ میں کسی قسم کا تغیر ممکن نہیں پس  
 ہر مسلم کو رجا ہے کہ آیت آن مجھبؑ اَعْنَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (سورہ  
 جحڑات) یعنی ایسا نہ ہو کہ اکارت ہو جائے تمہارا سب کیا کرایا، اور تم کو خبر بھی نہ ہو کو  
 ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ظاہرا اور باطن میں ایسا  
 مودب رہے۔ جیسے صحابہؓ کرام رہتے تھے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام  
 کے روپ و ہی ادب کی ضرورت تھی۔ اب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب  
 پاک کا ہمیشہ ہی حامی ہے۔

اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روپ و صحابہ کا بلند آواز سے بات کرنا مستوجب  
 نہ رہتا ہے ایسا تو موجودہ حالت میں ہمارے لئے حضور کے ذکر میں یا حضور کی حدیث کے  
 بیان میں بلند آواز سے بولنا اور آپ کی شانِ ادب کو ملاحظہ نہ رکھنا جرم کا مترادف ہے۔ عم  
 ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی حالت میں  
 سچی پیش دستی یا سبقت کرنے کی اجازت نہیں  
 سچی دستی کرنے کی مخالفت

فرمایا ہے۔ **يَا يَهُوَ الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَقْتُدُ مَوَابِينَ يَذْكُرِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ**  
**وَالْمُقْتُدُوا اللَّهُ طِيلَتِ اللَّهُ سَبِيعُ عَلِيهِمْ وَلِعْنَى إِلَيْهِ إِيمَانُ وَالوَإِشْتِدَادُ**  
 اللہ اور اس کے رسول کے روپ و اور درود اللہ سے بخششک اللہ سُنّتا جانتا ہے۔

شان نزول اس آیت کا شان نزول اس طرح پر ہے کہ چند لوگوں نے رسول اللہ صلی  
 اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے عید الاضحیٰ کو قرآنیاں کر لیں۔ اس  
 امر کی مخالفت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر یا انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سبقت

کرنے سے منع فرمایا کہ اے ایمان والو، قربانی نہ کرو تم اپنے نبی کے قربانی کرنے سے پہلے۔ اور نہ روزہ رکھو تم اپنے نبی کے روزہ رکھنے سے پہلے۔ (روایت کیا اس کو جابر و عائشہ نے) مقصود اس آیت سے مسلمانوں کو ادب سکھانا ہے کہ کسی قول و فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیش دستی نہیں کرنی چاہیے۔

مسجد نبوی میں اگر کوئی شخص کچھ دریافت کرے تو خود حجاب نہ رہے بیٹھے بلکہ منتظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حجاب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بات کا اپنی طرف سے حجاب دے دینا یا کسی حام کا کریمیہ بیسے ادبی ہے۔

**نگاہدار ادب در طریقِ عشق و نیاز** کہ گفتہ انہ طریقیت تمام ادا ب است  
اللہ تعالیٰ کامومنوں کو طریق ادا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مومنون کو  
علیہ وسلم پہلا نا اور الہانت والے کلمات سے منع فرمانا۔ **بِلَا تَأْتِيَنَا** کہ کوئی زو معنیین لفظ  
جس کے ایک معنے توہین آمیز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے  
وقت استعمال نہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کو ع ۱۷ میں ارشاد فرماتا ہے۔  
**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا دَاعِنَا وَقُولُوا الْظُّرْرُتَا وَاسْتَعْوَاهُ وَ**  
**لِلْكُفَّارِ يُنَزَّلَ عَذَابٌ أَكْلِيمٌ**۔

ترجمہ:- اے ایمان والو را عتنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے  
ہی سے بغور سنو۔ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

تفسیر دمشقی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کے پند و نصائح سُنا کرتے تھے۔ اور جب کوئی بات اچھی  
طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی تو را عتنا کہتے تھے۔ یعنی ہماری رعایت کیجئے۔ اور مکرر فرمائیے  
یہ وہی کہنیت بھی کہی لفظ عین کے کسرہ کا اشباع کر کے کہتے تھے۔ بَاعِدِنَا۔ یعنی ایہ ہمارے

چر فاہیے، محاذرِ رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھو گئے۔ اور ان کمبنتوں سے کہتے گئے کہ اے دشمنانِ خدا۔ اب اگر میں نے تم سے یہ لفظ لُٹا۔ تو بسحدا تم کو قتل کر دلوں گا۔ وہ بولے کہ تم خود بھی تو یہی کہتے ہو۔ اس وقت یہ آپست نازل ہوئی جس کے معنی یہ ہیں کہ اے مسلمانوں تم اس لفظ داعینا ہی کو جھوڑ دو۔ جس کے دو معنے ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ تم اپھے معنے میں اس کا استعمال کرتے ہو، لیکن کافروں کو وہ لفظ دوسرا سے معنے میں استعمال کرنے کا موقع مل جانا سے لہذا انظرنا کہا کرو۔ اور سننا کرو۔ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ اگرچہ کافر داعینا کی جگہ داعینا دبا کر کہتے تھے، مگر بیان واقعی تھا۔ کچھ غلط نہ تھا۔ یعنی فی الواقعہ آپ نے بکریاں چڑائی ہیں۔ اور ایک آپ پر ہی کیا نحر ہے جحضرت یوسف حضرت موسیٰ علیہما السلام وغیرہما ہر نبی نے بکریاں چڑائی ہیں۔ بلکہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہر نبی کا راعی غنم ہونا حکمتِ الہمیہ پر مبنی ہے تاکہ اس میں راعی امت ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سہ بحکم آنکہ امت پروردی را شبان لاّق بود پیغمبری زا

چو یوسف باہزاراں کامرانی ہمیز دستمنا مئے شبانی  
مسلمان تو فقط داعینا کہتے تھے، کافروں کے معنے مقصود کا تصور آن کے دل میں نہ تھا۔ پھر ممالکت کی گئی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ گو داعینا یا داعینا کسی معنی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موجب تو ہیں نہ تھا۔ مگر گفار کا اس کو موجب تو ہیں سمجھ کر استعمال کرنا بھی غیرتِ الہمیہ کو گوارانہ ہوا۔ اور مسلمانوں کی زبان سے ایک ایسے لفظ کا استعمال بھی ناپسند ہھہ پایا گیا۔ جو اگرچہ کسی پہلو سے بھی موجبِ اہانت نہیں۔ مگر گفار کے اختیار کردہ لفظ کے ساتھ اس کو لفظی اشتراک ہے۔ یہ آپ کے لئے کمالِ رعایت اور ہے۔ با صافِ ضمیر ان پا دب باش کے بسا یار از آپ کہر آئینہ زنگار گرفت است

غرضِ ہر چند صاحبِ کرام اس لفظ کو نیک نیت سے تعظیم کے محل میں استعمال کیا کرتے تھے۔ مگر چونکہ دوسری زبانوں میں اسکا استعمال تو ہیں کی غرض سے تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال سے مطلقاً منع فرمادیا۔ اب یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس لفظ میں کتابتہ بھی

تو ہیں مراد نہ تھی۔ بلکہ صرف دوسری زبان کے لفاظ سے اس کا استعمال ناجائز نہ تھا۔ تو وہ الفاظ ناشائستہ جس میں صراحتہ کسیرشان ہو کر نکر جائز ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ مقصد مخالفت سے پڑھا کر یہود اس لفظ کو استعمال نہ کریں۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ ہنہی صراحتہ خاص مونین کو ہر قبیل جن کے نزدیک یہ لفظ محل تعظیم میں مستعمل تھا۔ اس میں نہ یہ دعا ذکر ہے فرماں کے لغت کا۔ اگر صرف یہی مقصد ہوتا۔ تو مثل اور اُن کی شرایق کے اُس کا ذکر بھی سہی ہو جاتا۔ صرف مونین کو مخاطب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ کو نیک نیت سے بھی استعمال کرنا درست نہیں۔ پھر اس کی نزا یہ ہٹھرائی گئی کہ جو شخص یہ لفظ کہے بخواہ کافر ہو۔ یا مسلمان۔ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بالفہر اگر کوئی مسلمان بھی یہ لفظ کہتا تو اس وجہ سے کہ وہ حکم عام تھا۔ بیشک مارا جاتا اور کوئی یہ نہ پوچھتا کہ تم نے اس سے کیا مرادی تھی۔

اب غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ خاص تو ہیں کے محل میں استعمال ہوتے ہیں۔ جلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کرنا خواہ صراحتہ ہر یا کتنا یہ تھے کس درجہ تیسح اور مذوم ہونگے۔ اگر صحابہ کرام کے رو بروجن کے نزدیک داعنا کہنے والا مستوجب تسلیخ تھا کوئی اس قسم کے الفاظ کرتا تو کیا اس کے قتل میں کچھ تاثل ہوتا۔ یا یہ تاثل پیلاتے بار وہ متفید ہو سکتیں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ اب کیا ہو سکتا ہے رسول نے اس کے کہ اس زمانہ کو باد کر کے اپنی بے بی پر روانہ کریں۔ اب وہ پڑائیے خیالات والے شخص کا لوگ کہاں ہو جن کی جمیت نے اسلام کے جھنڈے مشرق و مغرب میں نصب کر دیتے تھے۔ ان خیالات کے جھنڈاتے ہوئے چراغ کو آخری زمانہ کی ہوادیکھ نہ سکی۔ غرض میدان خالی پاک جس کا جی چاہتا ہے۔ بکال جدائت کے ساتھ کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دیسرت کو دیکھتے کہ وہ گستاخیاں اور بے ادبیاں جو قابلِ نزا تھیں انھیں پر ایمان کی بناتا تھا کہ جاہر ہی ہے جب ایمان یہ ہو تو بے ایمان کامضیوں سمجھنے میں البتہ غور و تاثل درکار ہے۔

گر تو سمتی طالب راه ہد لے  
ذرہ ذرہ کن ادب باکریا  
در بمحہ کردار با اخلاص رب  
استقامت دار در راه ادب

ہرچوپ فرماید ترا شرعِ رسول !! یک سر مُؤذل نئے باید عدول !  
 اے پسر ہرگز مکن ترکِ ادب ! تائیفتی از مقامِ قربِ رب  
 مردیا بدان از ادب را ہے لے بلکہ یا بدان از ادب قربِ خدا !  
 از ادبِ زندگی صدیق لفظ شود بے ادبِ صدقی زندیق لفظ شود  
 بگرد ادبِ ذر جملہ شے داری نگاہ بیگناں گردی زخاصان اللہ  
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امِ سابقہ اپنے انبیاء کو نام لے کر پکارا کرتیں۔  
 چنانچہ قرآن مجید میں ہے (۱) اس باط نے کہا  
 یَمُوذِّسَ الَّنُّ لِتُصْبِّرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ

(سورہ بقرہ کو۶۷) یعنی اے موسیٰ ہم ہرگز نہ رہیں گے ایک کھانے پر۔ ۲۱، حواریوں نے کہا۔  
 يَعِدِيْسَى بُنَ هَرَيْمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا يُعِدَّ لَّا هُنَّ  
 السَّمَاكِيْرَ - (سورہ مائدہ کو۶۵) یعنی اے مریم کے بیٹے علیٰ کیا تمہارے پروردگار سے  
 ہو سکیگا کہ ہم پر آسمان سے بھرا خوان آتا رہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی تعظیم و توقیر کے لئے امتِ محمدیہ کو ان کا  
 نام لیکر پکارنے سے منع فرمایا چنانچہ سورہ نور کو ۹۶ میں ہے۔ لَا تَجْعَلُوْا دُعَائَهُ  
 الرَّسُولِ بَدِينَكُمْ كَلْدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۝ یعنی مسلمانوں اور رسول کے بلانے  
 کا رہ طریقہ اختیار نہ کرو جیسے آپس میں تم میں ایک دوسرے کو بلایا کرتا ہے۔

تفسیر درِ مذکور میں مرقوم ہے کہ ابو نعیم عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس امت کی تفسیر پس پوچھ رکھتے ہیں کہ پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد۔ یا ابا القاسم (یعنی سب سب عرف صرف نام و کنیت کے ساتھ) کہہ کر بلانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کی خاطر نام سے پکارنے کو منع فرمایا تب سے صحابہ کرام نے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنا شروع کی۔ مقصود یہ کہ عجز دنیا ز کے ساتھ پکارا کریں جس سے ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم نہ مہر برہ۔

ذیکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنا بھی سخت ناگوار

الدرا۔ اور کہا کہ میرے محبوب کا نام لینا بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیکر پکارنا نظرف منع ہے بلکہ حرام ہے۔

واقعی الصاف یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیکر پکارے تو غلام کی کیا محال ہے کہ آقا کا نام لیکر پکارے۔

**اللہ تعالیٰ کا نام انہیا رکونا فم سے**  
علیہ وسلم کو ذاتی نام کے ساتھ کہیں بھی خطاب پکارنا مگر اپنے حبیب کو نہیں!

ہی سے یاد کیا جس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجہ کی عظمت و نرگی معلوم کرنا منظور ہے۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر الوالو العزیم انہیا رکو با وجود ان کی جلالت شان کے نام ہی کے ساتھ برا بخطاب کیا گیا چنانچہ آدم علیہ السلام کو یوں پکارا۔

یَا اَدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ  
الْجَنَّةَ ۚ سُورَةُ بَقْرٍ رَوْعٍ ۚ هُوَ دُسُورٌ

اعراف دو کوئ ۲)

یَا اَدَمُ اسْتَ بِا پر انہیا خطاب  
روح نوح علیہ السلام کو اس طرح پکارا۔

یَا نُوحُ اهْبِطْ لِي سَلَّمْ تَّا  
سورہ ہود دو کوئ ۳)

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یوں خطاب ہوا۔

یَا ابْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ  
الرُّؤْيَانِ ۚ سُورَةُ الْصَّفَاتِ ۖ ع ۴)

حضرت موسی علیہ السلام کو اس طرح بلایا۔

**لِمُوسَىٰ رَأَيْتُ أَنَا دُكْكَ فَأَفْلَعَ**

نَعْلَمُكُمْ حَدِيثَ دُسُورَةِ طَلَهَ (عَزَّ) اٰیٰ ۖ

(۵) حضرت علیہ السلام کو لوں لکارا۔

لِعَيْنِي أَذْنٌ مُّشَوَّقَةٌ وَرَانِعَةٌ

الْيَهُ دسورة آل عمران نکوع ۶

۱۴) حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طرح یکارا۔

كما دَأَدَّهُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي

اُلَّا رُضِيَ رَسُولُهُ مَنْ عَمِلَ

(۷) حضرت زکریا علیہ السلام کوں تھوں مٹکا را۔

کارنگی ملٹری کالج

الدُّرْسُ الْمُهَذَّبُ

(سورة مریم علیہ السلام)

۴۸) حضرت سید علیہ السلام کو اس طرح پڑا ۔

لے رہا تھا جذبہ لکھ کر مضمونی سے۔

### رسور دلمکی کنگو

کوہستان خاک شہر

وَيَكْتُبُهُنَّا تَعْمَلُمْ بِسْمِ رَبِّكُمْ يُبَكَّرُ إِلَيْكُمْ مَنْ كَيْدُهُ مُنْجَدِلٌ وَالْمُتَسْلِمُمْ  
كُوْرِجَهَا كَمْبِيْزِرِدُونْ كُوْرُتُونَامْ بِنَامْ يُبَكَّارَ كِيَا۔ مَكْرَا پِيْنَے حَبِيبَ كَرِيم عَلَيْهِ الْضَّلَوَةُ وَالْتَّسْلِيمُ  
كُوْرِجَهَا كَمْبِيْزِرِدُونْ كُوْرِجَهَا تَوْپِيَا رَسْخَطَابَ نَرَالَهُ الْقَابُ سَهَهُ، هَنِيْ بِياد فَرِيَا يَا رَجُو صَافُ وَ  
صَرْتَحُ اسْ اَمْرُ پِر دَلَالَتُ كُرْتَاهَهُ، كَهُ اُسْ كَيْ بَارِگَاهِ عَالِيِّ مِنْ حَضُور عَلَيْهِ الْضَّلَوَةُ وَالْتَّسْلِيمُ سَهَهُ  
نَرِيادَهُ كَوْنِيْ مُجْبُوبُ اُور پِيَا رَأْعَزَتُ وَتَوْقِيرُ وَالاًمْنَهُيِّ هَهُهُ، بِچَنَّا شُجَّرَهُ اَرْشَادِ مُوتَاهَهُ۔  
۱۰) لَيَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَدْعُكُمْ لَكُمْ۔ یعنی اے نبی! ہم نے بِتَحْمَهُ رسول

(سورة احزاب)

۲۷) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ

الْمَكَفُ مِنْ تَرَبَّعٍ طَرَسَرَهْ مَا دُوْعَ (١٠)

(٢) يَا يَهَا الْمُزِمِلَةُ قُبْرُ الْمَيِّلَ  
الْأَقْدِيلُ لَأَنَّهُ نَصْفُهُ أَوْ الْفُصُلُ  
هُنْكُهُ فَلِيُلَّهُ أَوْ ذِذُ عَلَيْهِ.

رسورہ مژمل

اللهم إله العالم فم فاندزه

وَلَكَ فَكْرَهًا هـ (سرور مدثر)

رَبُّكُمْ وَالْقُرْآنُ أَحْكَمُ الدِّرَجَاتِ

**أَنذِقْ لَكُمْ أَمْرُ سَلَتْنَ** . (سورة لـ ١٥)

حَلَّتْ وَعِمَّاً لَنْ تُكُنْتَ عَلَيْكَ

الْقُرْآنَ الْشَّهِيْدَ لِرَسُولِهِ طَلَبُهِ

یعنی اسے خود ہوئی رات کے چاند! ہم نے تجھ پر

قرآن اس لئے نہیں آتارا کہ تو مشقت اٹھائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ تمام امراء کو نام لیکر پکارے۔ اور ان میں سے خاص ایک کو لوپیں مذکورے رائے مقرب بارگاہ۔ اے نائبِ سلطنت۔ اے صاحبِ عزت اے سردارِ مملکت۔ تو کیا کسی کو اس امر میں کسی طرح کاشک و شبہ باقی رہے گا کہ وہ بادشاہ کے نزدیک تمام عائد سلطنت اور ارکینِ مملکت سے زیادہ محبوب و پسایا اور عزت و وجہت

والآن

اللَّهُ كَسَبَ كَمْ خَدَانِي كَمْ عَطَا! حضرت رسول میاں کو قرآن میں بجا بجا

**لیکر کہیں نکار اتوڑا۔** اکہیں کہیا! حمّ و نون اور کہیں والشمس والفتحی!

کے میرا علم و عقل صفت آیکی کروں ؟ تم سب پڑھو درود میں ذکر نہی کروں

بِالرَّبِّ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِعًا أَبْدًا

عَلَى دُسُولِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمَا

**اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کے بھائے و صفی نام لئے کا اصل راز  
نعت خواہی کا ثبوت**

خطاب وصفی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں گورا ایک قسم کا التزام نعت نبوی کا ذکر کیا ہے جس کا مقصود اس لئے کہ ظاہر ہے کہ مقصود ندا سے یہی ہوتا ہے کہ منادا البنی ذات سے نداء کرنے والے کی طرف متوجہ ہو۔ تو چاہیے کہ ندا ان الفاظ کے ساتھ ہو۔ جو منادی کی ذات پر دلالت کریں۔ اس مقصود کے پورا بکرنے میں علم یعنی نام درجہ اول میں سمجھا جائے گا۔ کیونکہ اصلی غرض اُس سے یہی ہے کہ ذات پر دلالت کرے۔ پھر کسی خاص صفت کے ساتھ ندا جو جائز ہے۔ اس کی یہی وجہ ہوگی کہ اُس سے ذات پر دلالت ہو جاتی ہے۔ جو اس مقام پر مقصود بالذات ہے۔ درست محتی وصفی جو زائد علی الذات اور مقتضی نکارت ہیں، اس کو ندا کے ساتھ جو مقتضی تعین ہے کوئی مناسبت نہیں بہر حال منادی کا اسم علم ذکر نہ کر کے اوصاف جزو ذکر کئے جاتے ہیں۔ وہاں دو مقصود پیش نظر ہوتے ہیں، ایک ترجیح منادی کی، دوسری توصیف۔ اگرچہ باعتبار ندا کے توصیع ایک امر زائد ہے۔ لیکن اس وجہ سے کہ قصداً اوصاف ذکر کئے جاتے ہیں، توصیف بھی وہاں ایک امر مستقل اور مقصود بالذات ہو جاتی ہے۔

اب اس تقریر کو مانحن فیہ پہنچیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ندا کے ساتھ ذکر کئے ہیں۔ اگرچہ وہاں ندا مقصود بالذات ہے مگر خاص اوصاف نبی کو ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ نعت بھی ایک مقصود اصلی اور مستقل برائے ہے۔ درست مثل اور انبیاء علیہم السلام کے نام مبارک کے ساتھ ندا فرماتا۔ پھر جب تمام قرآن مجید میں یہ التزام کیا گی تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر نعت شرافت کا اہتمام منظور ہے۔ بے باوصافش رسیدن کے توانہ انبیاء اور ائمہ کے تعلق نہیں کیا گی بلکہ خواہ خدا اور ا!

**تعدیلیہ اشعار کے جواہر کا ثبوت**

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعدی رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ جب انہوں نے اشعار تعديلیہ پڑھے پہنچ پڑھا۔ اللہ نبی اور شرح زرقانی میں مرقوم ہے۔ کہ نابغہ جعدی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے روپ و ایک طولانی قصیدہ پڑھا جس کے شعر قریب دو سو کے تھے جب وہ ان شعروں پر پہنچے۔ ۷

وَلَا نَخِيرُ فِي عِلْمٍ إِذَا الْمَكِينُ لَهُ      بَوَادِرْ سَجْنِي صَفْوَكَ أَنْ يَكْدَدَأُ  
وَلَا نَخِيرُ فِي عِلْمٍ إِذَا الْمَكِينُ لَهُ      حَلِيمَ كَذَا مَا أَفْرَدَ الْأَمْرَ أَهْدَأُ

”یعنی نہیں ہے علم میں کچھ خیر جب نہ ہواں کے ساتھ حدت غصب جو بچائے اُس کے صافی کو نکل رہنے سے۔ اور نہیں ہے علم میں کچھ خیر جب علم والا ایسا علیم نہ ہو۔ کہ کوئی امر پیش آئے تو اپنے کو ہمیکوں سے روکے۔“

تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مہمنہ کی مہر کو نہ توڑنے یعنی تمہارے دانت نہ گریں۔ اور مہمنہ کی روشنی نہ بگڑنے۔

راوی کہتے ہیں کہ جعفرؑ نے با وجود یکہ سو برس یا دو سو برس سے زیادہ عمر پائی۔ مگر ان کے دانت سب اچھے تھے اور جب کوئی دانت اُن کا گرتا۔ تو اُس کی جگہ ایک نیا دانت نکل آتا۔ کرز بن اسامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نابغہ کے دانت دیکھے۔ اولوں سے زیاد سفید تھے۔ پیر اثر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کا تھا۔

اگرچہ جس مضمون پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خوش ہو کر دعا دی۔ وہ ایک عام پاٹ ہے کہ علم کے ساتھ غصب اور علم کے ساتھ علم ہونا چاہیئے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام پر یہ بات ظاہر تھی کہ جیسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے علی وحدۃ الکمال یہ صفتیں ظہور میں آتی ہیں۔ دوسروں سے ظہور میں آہی نہیں سکتی ہیں۔ اس لئے شاعرنے گو صراحت مصدق معین نہ کیا۔ لیکن مقصد اس سے توصیف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی تھی۔ جس کو حسب قول مشہور الکتابیۃ البلغ عن الصراحت پیر ایہ حکمت میں بیان کیا۔ الغرض ان دونوں شعروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسے طور پر ہوئی کہ گویا ان صفات میں کوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا شریک نہیں۔

۶۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبّاس رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ جب انہوں نے اشعار نعتیہ پڑھنے کی اجازت چاہی۔ پھر تجھے موارہ بـ اللہ نیہ میں ہے کہ جب عبّاس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ

مدینہ طیبیہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی مدح میں کچھ عرض کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مذہب کی ہبہ کو نہ توڑے۔ یعنی مذہب کی روشنی نہ بگڑے۔ پس انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جس کے چند اشعار یہ ہیں۔

لَمْ يَرَهُ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَكُنْ مُّؤْمِنٌ لَّهُ مُّؤْمِنٌ  
لَّمْ يَرَهُ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَكُنْ مُّؤْمِنٌ لَّهُ مُّؤْمِنٌ

یعنی پہلے اس کے خوش تھے آپ سالیوں میں اور اس ولیعت کا ہے میں جہاں ملا تھے جاتے تھے پتے یعنی آدم و حوا علیہما السلام کے جسم پر اس آیت شریف کی طرف اشارہ ہے وَطَفِقَ أَيَّلَهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔  
بھرا تھے آپ شہر دیں میں کہ نہ بشر تھے اور نہ آپ مقصر۔

أَنْتَ وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُمْكِنٌ وَقَدْ  
أَنْتَ نَسْرًا وَاهْدِنَّكَ الْعَرَقَ  
بلکہ نطفہ تھے کہ سوار تھے کشتی میں اس حالت میں کہ لگام دی تھی غرق نے نسر کو رجو ایک بہت بخا اور اس کے پوچھنے والوں کو یعنی جب طوفان کا پانی ان کے مذہب میں داخل ہوا تھا۔

وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُمْكِنٌ وَقَدْ  
فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ تَحَمِّلُ  
آپ خلیل اللہ کی پشت میں مخفی ہو کر آگ میں گئے۔ پھر کونکروہ جل سکتے تھے؟  
وَأَنْتَ لَهَا وَلِدْتَ أَشْرَقَتُ الْأَ  
فَخَنَّ في ذَرَالْقَضِيَاءِ وَفِي النُّورِ  
وَرَسْبَلَ الرِّشَادَ وَخَنَّ  
وَاضْنَاءَ مِنْكَ الْوَجْهَ وَلَوْدَسَنَا  
یعنی اور جب آپ پیدا ہوئے تو روشن ہو گئی نہیں۔ اور روشن ہو گیا آپ کے نور سے افقِ رہم اسی روشنی اور نور میں ہیں۔ اور راستے ہدایت کے طے کیا کرتے ہیں۔ اور کل وجود آپ سے روشن ہو گیا۔ اور میک گیا۔ جیسے مشک مہکتا ہے۔ اور آپ کی خوشبو پائیدار ہے۔ (رس) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اخلاقی نظم سے خوش ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

عَنْ عَالِيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدٍ  
أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَانٍ إِنَّ دُوْخَ الْقَدْسِ لَا يَرَأُ  
يُؤْتَدُ لَكَ مَا نَأْفَيْتَ عَنِ اللَّهِ وَ  
رَسُولِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَاهُمْ  
حَسَانٌ فَشَفَافٌ وَأَشْفَافٌ -  
سب کی تشقی ہوئی۔

(رواہ مسلم)  
بیر اسیل علیہ السلام کا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مدد دینا اسی وجہ سے تھا کہ حضور  
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اشعار پسند تھے۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حسان رضی اللہ  
عنہ کے لئے مسجد شریف میں منبر رکھواتے تھے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر اشعار نعتیہ پڑھیں۔  
کعب اور ابن رواحد رضی اللہ عنہما کو اگر لفظ نہ ہوتا کہ اشعار نعتیہ کے پڑھنے کو حضور  
علیہ الصلوٰۃ والسلام پسند فرماتے ہیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روپردا اور حرم کعب  
میں اشعار پڑھنے پر بھی مبارکت نہ کرتے۔

کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ نے جو اول حضوری میں قصیدہ پڑھا۔ اس سے بھی  
یہی ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اشعار نعتیہ کو پسند فرمانا مشہور عام تھا۔ ورنہ  
ایسی خطرناک حالت میں کہ صحابہ کرام ان کے قتل کے درپے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ کی بھی حرثات  
نہ کر سکتے پھر انچہ ایسا ہوا بھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ بلکہ عملہ عطا فرمایا۔  
ابوالیوب سختیانی کے عشق رسول [ابوالیوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول علیہ الصلوٰۃ  
والسلام کی کیفیت علامہ فاضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی  
الله صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت شفا میں یوں مرقوم ہے۔

قالَ مَالِكٌ رَجْهَ اللَّهِ وَقَدْ سَئَلَ  
عَنْ أَبِي الْيَوبِ السَّخْتِيَانِيِّ مَا

حدائق عن أحد الأقوال ففضل  
کہا۔ میرے اساتذہ میں جن کی روائیں تم نے مجھ سے سُنی ہیں۔ ان سب سے وہ افضل ہیں ہوں  
منہ و قال و سچ حجتین فکرت امقدہ  
لے دفعہ کئے۔ اور میں ان کا حال دیکھا کرنا تھا۔ اس  
ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا  
یہ تھی۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے  
مدت میں کوئی روایت ان سے نہیں مگر حالت ان کی  
یہ تھی۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے  
تو اسقدر روتے کہ مجھے ان کے حال پر رحم آجائے جیسا  
ان کا یہ حال دیکھا۔ تو انکی شاگردی اختیار کی اور انکی  
حدیثیں لکھ لیں۔

نَّاَمَ مَاَكَ رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ اَبْرَأَيْبَ سَخْتَيَاٰنِي رحمۃ اللہ علیہ کو نبظر اس حالت کے جو ترجیح دیتے  
ہیں اور سب اساتذہ سے افضل کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں محدثین  
اور اکابر دین کے خجالات کس قسم کے تھے۔

اب ذرا سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت کو خیال کیجئے کہ کس درجہ کی عظمت  
و محبت اور خدا جانے کوں کوں سی چیزیں ان کے دل پر پورا تسلط کر لئی تھیں جس سے وہ  
حالت پیدا ہو جاتی تھی جواب سے بھی پڑھی ہو ہے۔ پیہاڑا سی ذکر مبارک کا تھا جو مسلمانوں کے  
دلوں میں علی حسب مراتب ایمان کو تازہ کر دیا کرتا ہے۔ سُجَانُ اللَّهِ وَطَلَّوْ توز کر شرفت سے وہ حالت  
پیدا ہو رہی ہے جو بڑے بڑے فاضل معاصروں سے افضل بنادیتی ہے۔ اور یہاں ہنوز  
اس کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف پڑا ہو ہے۔ بلکہ وہ تدبیریں لکھا جاتی ہیں کہ کہیں فکر  
شرفت کی مجلسیں نہ ہونے پائیں۔ اللہ تعالیٰ ان نام کے مسلمانوں کو رشد و پہاڑت بخشے ہماکہ وہ دوڑخا  
کا ایندھن بنتے سنے پچ جائیں۔

گہ بکہ نزل و گہ در مدینہ حب المُتم  
بر کنارِ زمزم از دل بر کشم یک زمزمه  
کز دوچشم خون فشان آں چشمہ را در بیکشم  
حمد نہار اس دل دریں سود برا امر و رشد  
نیست ضبیرم بعد ازیں کام و در را فدا کشم  
یار رسول اللہ بسو گے خود مراد ہے نہ!  
ماز فرق سر قدم سازم ز دیدہ پا کشم!

اگر زوئے جنت الماولی بروں کر دم زدیں جنہم ایں میں کہ برخاک درت ماولی کنم  
خواہم از سو خدا گے پا پرست نہم سرور جہاں یا پا پیت سر نہم یا سر دری سودا کنم  
ہر دم از شوق تو مخدور مم اگر یک لحظہ جامی آسانا مہ شوق تے دگر انشا کنم ॥

**آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر**  
بین تشریف فما ہوں تو آواز دینا منوع قرار پایا  
**میں آواز دینے کی مخالفت** چنانچہ اللہ تعالیٰ ا سورہ جمrat رکوع ا میں ارشاد فرمائی ہے۔

اَنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ  
الْجُحَرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ حَسِبُرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ  
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝

”یعنی جو لوگ کہ شجھے کو جزوں کے باہر لے کر تھے  
ہیں۔ وہ اکثر یہ وقوف ہیں۔ اور اگر وہ صبر کرتے  
یہاں تک کہ تو ان کی طرف از خود نکلتا۔ تو ان  
کے حق میں بہتر تھا۔“

اس آیت کا شان نزول مفسرین پیوس تحریر فرماتے ہیں۔ کہ قبلیہ بھی تیسم کے چند لوگ رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی غرض سے مکان پر دوپھر کے وقت آئے۔ آپ اُس وقت سو  
رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس طرح پکارنا شروع کیا۔ کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ذرا باہر آؤ۔  
تب ان کے باسے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب یہ ہے۔

یہ تعلیم ادب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کوئی شخص حاکم وقت اور بادشاہ کو ان کے  
مکان سے اپنی عرض کے واسطے نہیں پکار سکت۔ جب تک وہ خود سخود دربار میں نہ کئے۔ ایسی ہی  
رسالت کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔

دیکھئے اس آیت میں جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے باہر آنے کا انتظار نہ کر کے پکارنا  
شروع کیا۔ ان کی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔

یعنی وہ بے عقل ہیں۔ لہذا

بے ادب کا بیو قوف ہوتا اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ان کے دماغوں میں کچھ  
فتو رہتا جس کی وجہ سے ان کو بے عقل یا محبوں کہا گیا

یا کوئی اور سبب تھا۔ حالانکہ وہ دیوانے نہ تھے۔ بلکہ پڑے ہوشیار اور مذہب لوگ تھے جو مکتب ہو کر اس غرض سے آئے تھے کہ شعر و سخن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شاعر اور خطیب پر سبقت لیجائیں۔ یا وجود اس کے وہ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ اس کا منشا ہی کچھ اور ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تک کسی کی عقل سلیم میں کبھی نہیں ہوتی۔ وہ بزرگوں کی برادری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر کچھ بھی عقل ہو۔ تو اُدی سمجھ سکتا ہے کہ بزرگ نیدگانِ حق کے ساتھ برادری کیونکہ نہ سکے گی۔ کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر محصر ہے۔

**ذِلْكَ فَضْلُ اللَّهِ مَيْوَرِتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مَهْ**

ایں سعادت پر دریا باز و نیست مثانہ بخشندہ خدا نے مج شنبہ ۱۵

الحاصل بیوقوفی کا اطلاق اس چاعت پر اسی وجہ سے ہوا کہ بارگاہ رسالت میں بے ادبی سے پیش آئے۔ اگر کہا جائے کہ جائز ہے کہ کفر کی وجہ سے یہ اطلاق ہوا ہو جس سے عقل معاوی کی نفی ہو گئی۔ تو ہم کہیں گے کہ اس آیت شریفہ میں کفر کا کہیں ذکر نہیں بلکہ یہ حکم ان لوگوں پر ہوا جو اس بے ادبی کے ساتھ متصف تھے۔ اور علم بلاعنت و اصول میں مصروف ہے کہ ایسے موقعوں میں وصفِ مسد الیہ کو تاثیر اور دخل ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ نے بھی صارم المسوول میں لکھا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اس حکم میں کفر کو دخل نہ تھا بلکہ اس کا مدار مخصوص بے ادبی پر تھا۔

**بِلَانَةِ كَا طَرْقِ ادْبَرِ تَقْسِيرِ رَوْحِ الْبَيَانِ مِنْ مَرْقُومٍ** ہے کہ صحابہ کرام کا یہ دستور تو ناخنوں سے دروازہ کو کھلکھلاتے۔

ابو عثمان مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت میں ادب سے بیٹھنا مدارج علیاً تک پہنچا تاہے۔ چنانچہ بعض علماء کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے تو بیٹھے رہتے۔ جب تک کہ وہ خود بخود نہ نکلتے ابوبکر بن قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ پر کہتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کا دروازہ نہیں کھلکھلایا

پلک جب کبھی گیا تو انتظار میں بیٹھا رہتا جب تک کہ وہ خود بخود نہ لکھتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَابِرُوا حَتَّىٰ مَخْرُجٍ  
یعنی اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو نہ لکھنا  
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ  
ان کی جانب تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔

(رسورہ حجرات ۴۱)

سبحان اللہ! علمائے حقائقی کی رائے کیا ہی صائب ہوتی ہے کہ بزرگوں کے ادب کرنے کو بھی اس آیت سے استنباط کیا۔

پھر حال معلوم ہوا کہ اس آیت شریفہ سے عموماً بزرگان دین کی تعظیم اور ان کا ادب مستفاد ہو سکتا ہے۔ مگر یہ بات شاید ہر ایک کی سمجھو میں نہ آئے گی۔ کیونکہ اس فہم کے لئے وہی لوگ خاص ہیں جن کی طبیعتیں ادب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں سہ

گر ادب درج سلسلہ شے داری نگاہ  
بیگناں گردی نر خاص سانِ اللہ!

## بَابُ سُوْمٍ بَلَى اُدْنِي كَكَنْتَ

**حضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوْسِي** رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو کسی طرح سے بھی طرح کی ایذا دینے والوں پر عَدْيَشیدہ ایذا دینا عذاب شدید کا باعث ہے۔ چنانچہ اللَّهُ تَعَالَیٰ سورہ توبہ رکوع میں ارشاد فرماتا ہے۔

**وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ ذُوْنَ رَسُولِ اللَّهِ** یعنی اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللَّهُ کے لَهُمْ عَذَابُكُمْ أَلِيمٌ رسول کو ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

دیکھئے خود رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اذ واجح مطہرات سے فرمایا۔ جیکہ آپ ان کی خوبی کا ذکر کرتے تھے۔ اور وہ صحیح کلمات خلافت شان کہتی تھیں۔ لَا تُوْجُدُ ذُوْنَ شَيْءٍ فِي عَالَمَةٍ یعنی تم نہ ایذا دو جو کو عالَمَہ صدیقہ کے بارے میں تو اذ واجح مطہرات نے آپ کو اذیت دینے سے اللَّهُ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی اذیت اللَّهُ تعالیٰ کے حکم کی کچھ مخالفت پر منحصر نہیں ہے بلکہ کسی طرح پر بھی اذیت ہو۔ آیت کا مفہوم اس پر جاوی ہے۔ **طَلَحَةُ صَحَابِيٍّ كَوْذِرَاسِيٍّ بَلَى اُدْنِي كَكَنْتَ** اللَّهُ تعالیٰ کو رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ذرا بھی تکلیف گوانا نہیں یعنی تچھے تفسیر دری باعث و عَدْيَشیدہ کا حکم منتظر میں ابن عبَّاس رضی اللَّهُ عنہ سے مردی ہے۔ کہ ایک یا ار رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے طلحہ بن عبید اللَّه رضی اللَّهُ عنہ کو اُن کی چیز ادا بہن عالَمَہ رضی اللَّهُ عنہ سے بات چیز کرتے دیکھا۔ تو آپ نے انکو

مشح فرمایا کہ اکنہ میں ایسا نہ دیکھو۔ کوئی ناجائز نہ ہو۔ تاہم میری غیوبیت  
کو ناگوار ہے۔ طلحہ کو یہ بات شاق گذری اور با غول ٹیڈی طان اُن کے مُندہ سے یہ کلمات  
نکھلے۔ کہ لوگوں دیکھو۔ محمد وصلے اللہ علیہ وسلم ہماری چھاڑا دپھنوں کو ہم سے پردہ کرتے  
ہیں۔ میں علی روں الاستشہاد کہتا ہوں کہ میں آپ کے وصال کے بعد اس سے ضرور نکل  
کروں گا۔ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا كَانَ لِكُفَّارَ أَنْ تُؤْذَنُوا دُرُسُولَ<sup>۱</sup>      یعنی اور تم کو سزاوار نہیں کہ اینا دوال اللہ کے رسول  
اللَّهُ أَكَلَ أَنْ تُنْكِحُوا أَذْوَاجَهُ<sup>۲</sup>      کو۔ اور نہ یہ کہ نکاح کرو۔ اس کی بیویوں سے  
هِنْ لَعْدِيْكَ أَبْدَأْطِرَانَ ذَلِكُمْ كَانَ<sup>۳</sup>      اس کے بعد یہی سمجھی۔ بیشک یہ اللہ کے نزدیک بڑا  
جُنْدَ اللَّهِ عَظِيْمًا ط<sup>۴</sup>

اس آیت کے نزول پر طلحہ کو تنبیہ ہو گئی۔ اور اپنی غلطی سے پیشان ہو کر بطور کفارہ  
ایک بردہ آزاد کیا، اور دس اونٹ جہاد میں دیے اور پریل حج کیا۔ (باب النقول)  
اس میں شک نہیں کہ کسی کے استقال کے بعد اُس کی عورت کے سابق نکاح کرنا  
عموماً جائز ہے اور جنہوں نے سادگی سے یہ بات کہی تھی۔ وہ صحابی تھے، لہذا اُن کی نسبت  
یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ کسی قسم کے خیال فاسد کی بنی پریل لفظ کہے ہوں۔ مگر با وجود اس کے  
جو یہ عتاب ہو رہا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ خیال جسی بے ادبی سے خالی نہ تھا، کیونکہ  
آنہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حرمت وغیرت کا کچھ خیال نہ کیا۔ اور یہ نہ سمجھتا۔  
کہ جو بات حضور علیہ الصلوٰۃ کی زندگی میں ضروری ہے۔ وہی بات حضرت کے وصال کے  
بعد سمجھی اب الاما قاتک ہے۔

اب اس عتاب کو دیکھئے کہ اس میں کس قدر تشدد کیا گیا ہے کہ اس قسم کی بات کو  
صرف دل میں لانا بھی ایک امر خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس موقع میں جو ارشاد  
ہے کہ "جو کچھ تم ظاہر کر دیا چھپا وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے" ؎ ظاہر ہے کہ اس سے  
متقصود تحریف ہے۔ ورنہ کان اللہ بکل شئی علیہما ہ (اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے،  
لہنے کی ظاہر اکوئی ضرورت نہ تھی)۔ (بیہقی)

الحاصل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے بعد از واح مظہرات کا تمام امت پر حرام ہونا اس پر دلیل واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حرمت و تعظیم وصال شریف کے بعد بھی بھائی خود ہے۔ اگر کہا جائے کہ از واح مظہرات کا نکاح وصال شریف کے بعد اس لئے درست نہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ موجود ہیں۔ تو ہم کہہ سکے کہ یہ امر واقعی ہے ہمیں بھی اس میں کچھ کلام نہیں بلکہ یہ بات بھی محتاج دلیل نہیں کہ گواہیاں علیہم السلام عموماً اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خصوصاً زندہ ہیں۔ مگر عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ اور عالم شہادت کے احکام عالم برزخ میں جاری نہیں ہو سکتے۔ ورنہ عامہ مومنین جن کے مرتبے کے بعد ان کی بیویوں سے دوسرے لوگ نکاح کر سکتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص فی سبیل اللہ شہید ہو جاتا۔ تو ان کی بیوی سے بھی کوئی شخص نکاح نہ کر سکتا۔ کیونکہ شہیدوں کی حیات بھی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران رکوع ۱۷ میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فَنَّ  
سَبِيلِ اللَّهِ أَمْقَاتَهُمْ بَلْ أَحْيَاهُمْ  
إِنَّمَا يُرْدَنُونَ  
یعنی اور (اے میرے عبییب) نہ خیال کرنا ان  
کو جو اسے گئے اللہ کی راہ میں مراہٹا۔ بلکہ وہ زندہ  
بھولوگ چنگِ احمد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سبتر پرندوں کی ہیئت  
میں بنایا کہ جنت کی نہروں پہاڑ نے اور چلنے پھرنے کا اختیار دیا۔ اور بڑے بڑے انعام  
فرملئے۔ تو انہوں نے اپنے اوپر یہ ہمراہی کی نظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ کہ یا اللہ العالیٰ  
کاش! ان نعمتوں کی خبر ہمارے زندہ باتی ماندہ بھائیوں کو ہو جاتی۔ تو وہ جہاد میں مارنے  
چانے سے خالفت نہ ہوتے۔ بلکہ شوق سے لڑکر شہادت حاصل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے  
آن کی ورثوست کے مقابلے یہ آیت نازل کی۔ مگر شہیدوں کی زندگی کے باوجود ان کی بیویاں  
نکاحِ شانی کر سکتی ہیں۔ کیونکہ شہید اگرچہ زندہ ہوتے ہیں۔ مگر برزخ میں ہیں جس کے احکام  
 جداگاہ ہیں۔

الحاصل نکاح نہ کوئی ممانعت بہ بنا بر جیات نہیں۔ بلکہ محض ایسوچے سے تھی۔

کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عترت و حرمت وصال کے بعد بھی دلوں میں قمکٹ رہے اور کوئی مسلمان اس قسم کا خیال بھی نہ کرے چیز میں کسی قسم کی بے ادبی لازم آ جائے۔

### از خدا خواہیم ترفیق ادب

بے ادب محروم مانواز فضل رب

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عطا و کرم کو ظاہر نہ کرتے تھے۔ اس سے آپ کو ملال ہوتا تھا جس ادبی املاک کا باعثِ عذاب ہوتا کا اثر یہ ہوتا کہ وہ عطیہ اُن کے حق میں آتش دوزخ

بناؤ یا جاتا رخاچ پڑھیت شریف میں ہے۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَجُلًا نَّعْلَاءَ

كَاهِي حاکم نے متذکر میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَسَأَلَ أَكْرَمُ فِي شَرِيفٍ فَقَدْ عَالَهُمَا بِدُيَارٍ  
فَإِذَا هُمَا يُشْنِيَانِ خَيْرًا فَقَالَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكِنْ  
فُلَانٌ مَا يَقُولُ ذَلِكَ وَلَفَتَهُ

أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةِ إِلَى  
مِائَةٍ فَهُمَا يَقُولُ ذَلِكَ ثَيَاتٌ  
أَحَدٌ كَمْ لِيَخُرُجَ بِصَدَقَتِهِ هُنَّ  
عِنْدَهُ مُتَابِطًا وَالْمَاءِ لَهُ

ثَيَاتٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ  
تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَهُ ثَيَاتٌ  
قَالَ ثَيَاتٌ أَهْنَعُ يَا بُونَ إِلَّا

أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْجُجُ اللَّهَ لِي  
الْبَعْدَ دَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدِلِّ

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یہ تو

دو ہبی دینار پر شنا رکرتے ہیں۔ میں نے فُلان

شخص کو دس سے سو تک دیئے۔ مگر اس نے اس

قسم کی ایک بات نہ کی۔ کوئی ادمی ایسا ہوتا ہے کہ

محجوں سے صدقہ لیکر بغل میں دبائے ہوئے ہاہر جاتا ہے

وہ اس کے حق میں آگ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ابھر آپ ایسے

لوگوں کو کیوں دیتے ہیں حالانکہ آپ جانشیتے ہیں کہ

وہ انکے حق میں آگ ہے۔ فرمایا۔ کیا کروں، لوگ محجوں سے

ماگنا نہیں چھوٹتے اور اللہ تعالیٰ انسیں چاہتا کہ

محمد میں سخل پایا جائے۔

اے بُر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب ادنے کی کرانی خاطر اور ملال میں نوٹ پہنچ ک پڑھی تو اپنے انسانی کا کیا حال ہوگا۔

اللَّهُمَّ تَعَالَى سُورَةُ الْأَنْزَابِ رَكْوَعٌ يَمِينٌ ارْشَادٌ فِي مَا نَهَىٰ.

لَئِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ لَعَنْهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُحِدُّهُمْ عِذَابُهُمْ فِي الدَّارِ الْمُنْكَرِ  
وَمَنْ هُنَّ إِلَّا بَرْهَنٌ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

مہیب ہے  
اگرچہ بظاہر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کی تھی  
سر امقرر فرمائی ہے۔ مگر در حقیقت کس کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایذا پہنچا سکے خیال نہ  
اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کو عن ۱۳۱ میں ارشاد فرماتا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
كُلُّهُ لَهُ قَائِمٌ وَنَوْنَاهُ

تفسیر بہینا وی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام مبارک اسی آیت شریفہ میں ذکر فرمایا ہے اس سے مقصود مخصوص حضور غلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم سے ریالوں کہتے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایذا دینا اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے چنانچہ کنترال گال میں ہے۔

عَنْ عَلَيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسَّلَمَ هُنَّ أَذَى شَجَرَةً  
أَذَى اللَّهَ أَذَانِي وَمَنْ أَذَا فَقَدَ  
يَقِينًا اُسْنَةَ اللَّهِ تَعَالَى كَوَايْدَادِي  
بِهِنْجَالٍ اس نے مجھ کو ایذا دی اور جس نے مجھ کو ایذا دی  
عَنْ عَلَيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسَّلَمَ هُنَّ أَذَى شَجَرَةً  
أَذَى اللَّهَ أَذَانِي وَمَنْ أَذَا فَقَدَ  
يَقِينًا اُسْنَةَ اللَّهِ تَعَالَى كَوَايْدَادِي  
بِهِنْجَالٍ اس نے مجھ کو ایذا دی اور جس نے مجھ کو ایذا دی

ادی اللہ۔ درود ابجیں دستے مدد یعنی مدد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں ناٹا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں ناٹا۔ وہ عذاب شدید میں گرفتار ہو گا۔ پھر اپنے اللہ تعالیٰ سورہ فور کے عدُلی سے عذاب کا نازل ہونا

رکوع ۹ میں ارشاد فرمائے۔

فَلَا يَعْذِذُ رَبِّ الْأَرْضَينَ مُخَالِفُهُنَّ عَنْ أَمْرِهِ  
أَكْتُصِيرُهُمْ فِي نَارٍ أَوْ يَصِيرُهُمْ  
عَذَابَ الْيَمِّهِ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں ماندا، اُس پر یا تو کوئی بلا نازل ہوگی، یا کوئی دردناک عذاب پہنچپائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل رکوع ایں ارشاد فرماتے ہے:

یعنی ہم نے بھیا ہے تمہاری طرف ملکہ مریم پر گواہی

دینے والا جس طرح بھیجا فرعون کی طرف یغیرہ تو

فر عدن نے پختہ کا کھانا مانا۔ لیں سرم نے اسکو دھکڑا

وہ مال کی پکڑ۔

إِنَّا أَدْسَلْنَا إِلَيْكُمْ دَرَسُولًا لَا

شَاهِدٌ أَعْلَمُ كُمُّ الْمَهَا أَرْسَلْتَ

إِلَى فَرْعَوْنَ رَسُولًا هُنْخَصِي قُوْرَنْ

الرَّسُولَ فَلَمَّا خَذَلَهُ اللَّهُ أَخْمَدَهُ وَأَنْجَاهُ

مظہب پر کر اگر تھے صحیح رسول کرنا و ناکرنا

مطلوب یہ کہ اگر تم بھی رسول کی نافرمانی کرو گے، تو عذاب میں گرفتار ہو گے۔

آنحضرت کے بعد فرمائی کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پردوخاں کا اثر صوراً مختہاً است

**طريق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعاء کا شرعاً متعارف**

چنانچہ نبوده اور موسیٰ علیہ السلام کی برد عارکے الفاظ سمجھا جائے گا۔

لَئِنْ أُطْهِسْ عَلَىٰ أَمْرَ الْهَمْ وَأَشْدَدْ لَعْنَةَ الْكَافِرِ فَإِنْ هُوَ

یعنی باراں ہنا اپنیا میٹ کر دئے ان کے مال اور سخت  
عکسِ قلوچہ نہ فلار ٹو ٹو منہ اچھا ڈا رہا

العَدَائِبُ الْأَلْتَهْرُ وَقَاتِلُ الْأَنْجَارِ

دیکھ لیں دردناک عذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں  
وہیں پرستی کرنا۔

رسول (الله علیہ السلام) مسیح اُنکے دعائیں کی دعا قبول ہو چکی۔

جاتے ہیں را، عذتیں آنے والے لمحے کو نہ کر جو تھے ہم کو گھٹائنا کافی ہے۔ کسی دفعے

— ویں لہو، میرے ایسی بھروسے کے اپ سے ہم میں دستا خانہ کلمات کہے۔ تو اپ نے اس پر پڑھا کی کہ

اللهم إنا نسألك ملائكة حنونا وعذاباً شدداً

میں بکلا پڑے چنانچہ رات کو ایک سیر آیا اور لوگوں کے جنم غافرین میں سے اکیلے عقیبہ کو اٹھا کر لے گیا۔  
رسانہ ہجری میں سجدہ کا عمل اسلام و پیدا کردہ از تاکم عامر بن خفیل حضور کے قتل کے ارادہ سے پئے  
ایک مسیح ساختی سمیت مدینے آیا حضور میں پہنچ کر گشائش پاہیں کر تباہ کر، اور آپ وقار اور ممتازت سے جواب  
دیتے رہے، مگر حافظِ حقیقت کی حفظ و حمایت سے اسکو اپنے مقصدِ مدینے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر ناکام و نامرد  
پاہنچ لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

**اللَّهُمَّ أَكْفِنِي عَامِرًا**

اہمیت مجہ کو عامر کے شر سے بچانتے ہیں آسمان سے بھلی گئی عامر

کا شمشیر کب ساختی دیں ڈھیر ہو گیا اور خود عامر چند روز بعد

مرض طاعون جہنم واصل ہوا۔

**اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام** | ایک بے ادب اور گشائی شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ اُس نے  
پہنچ دبی سے لپیٹ سے مرنے کا طیڑھا ہوا | تمسخر اور سنسنی کے طور پر مدد و معاونت حضور صلیہ الشفاعة فر  
استلام کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپنے حبیب پاک کی مثان میں اس شخص کی یہ بے ادبی اور  
کسخی ناپس آئی۔ اُسی وقت اللہ مبارک و تعالیٰ نے اس مردود کامنہ طیڑھا کر دیا چنانچہ مولانا  
روم اس قصہ کو متنوی معنوی میں کوئی ارتقام فرماتے ہیں۔

آن دبی کش کر دواز تمسخر بخواند۔ مرحوم رادیانش کشتب نہ!

یعنی ایک شخص نے تمسخر سے مرنے طیڑھا کر کے حضور صلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک لیا۔

تو اُس کامنہ طیڑھے کا طیڑھارہ گیا۔

باز آمد کا بے محمد عفو کن!

یعنی حبیب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ حضور صلیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس دوڑا ہوا آیا، اور کہ  
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو الطاف حلم میں لدُن کا دیا ہے۔  
**رَحِيمٌ نَّعَنْ لَدُنْ لَهُ رَجُمَةٌ** (یعنی بخش تو اپنے پاس سے رحمت) مجھ پر یطف و حمایت  
کرو، یعنی بپراقصوہ لند نعاف کرو۔

من ترا افسوس مے کردم ز جمل من بدم افسوس رامنوب و اہل  
یعنی میں جہالت سے آپ سے استہزا کر ملا تھا، درحقیقت میں مخدود تمسخر کے لائق اور اس

نیت رکھتا تھا۔ نہ

مرحمت فرمود سید عفو کردا۔ چون جرأت توہہ کر داں روئے زرد  
غرض جب اس زرور دشمنہ نے اپنی جرأت و گستاخی سے توہہ کی تو آپ نے اُس  
پر حرم فرمایا اور اُس کا قصور معاف کر دیا۔

جناب رسول اللہ علیہ وسلم رحمت فراحت کا بھی کامل ترین نمونہ تھے یکوں نہوں اللہ تعالیٰ  
نے اپکو تمام فضائل و مکالات کا بالاترین نمونہ بننا کر بھیجا تھا۔

ایک دشمن کامنہ چڑا کر آپ کا نام لینا اور آپ کا اسکو بخش دینا تو معمولی بات ہے آپ  
نے جانی دشمنوں کے قاتلانہ وار کر چکنے کے بعد ان کی بھی جان بخشی فرمائی ہے۔ ایک یہودی نے  
آپ کو گوشت پیس زہر کھلانے کی سازش کی۔ راز افشا ہونے پر صاحبہ نے اسکو قتل کرنا چاہا، آپ  
نے فرمایا رجاتے دو۔

ایک دشمن تلوار کھینچ کر آپ کے سر پر آپنی پا جب کہ آپ معروفِ نواب تھے۔ قدرت  
خدا! دشمن نکے ہاتھ سے تلوار گزٹ پڑی۔ ادھر آپ بھی جاگ اٹھے۔ تو اس کی تلوار آپ نے اٹھا لی  
اب وہ شخص مسکین بیکر گزٹ گزٹانے لگا۔ تو آپ نے اسکو چھوڑ دیا۔

ہمارے بن ابودنے پتھر چینیک کر آپ کی دختر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جاہ  
سفر مجرم کر دیا تھا۔ جس سے وہ اونٹ سے گزٹ پیں۔ اور حمل ساقط ہو گی۔ فتح مکہ کے روزہ سر  
چمک کے حاضر ہوا۔ تو آپ نے اس کی جان بخشی فرمائی۔

وحشی نے آپ کے پیارے چھپا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے قتل کیا تھا۔  
جب اُس نے اپنی پیشیانی ظاہر کی تو معاف کر دیا۔

ہندہ زوجہ ابی سفیان نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سلیمان نکال کر دانتوں میں چیا یا بھلا  
جب وہ بھی سرخجلت خم کئے ہوئے حاضر ہوئی۔ تو آپ نے درگذر فرمایا۔ نہ

آنکہ بارہ دن در رحمت گشادا۔ مکہ را پیغام لا تشریب داد

کسری شاہ فارس کا انتھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
ماہر مبارک کی بیحر متی کرنے کے سبب مقتول ہونا مدینہ طیبہ سے بادشاہوں کے نام فرامیں لکھے

تو ایک فرمان کھنڑی شاہزاد کو بھی لکھا جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو دعوتِ اسلام دی تھی۔ اُس بدبخت نے حضرت صَلَّی اللہ علیہ و سَلَّمَ کے نامہ مبارک کو پڑھ کر عصت سے پُر نے کر دیا۔ یہ نامہ مبارک کی چاک کیا گیا اس نے اپنی جان و قسم کو چاک کیا پھر اسکے ارشاد مرتبا ہے۔

وَمَا ظَلَمْتَ وَلَكِنْ يَا نُرًا۔ ” (یعنی اور ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمارے  
الْفُسْحَمْ لَيُظْلِمُونَ (سورہ بقر کو ۴)۔ بازنان لوگ خود اپنی جالوں پر ظلم کرتے ہیں۔“  
عرض اس کمیخت تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نامہ مبارک کو نہیں پھاڑا۔  
بلکہ اپنی سلطنت کو حرف غلط کی طرح صفحہ ہنسی سے مٹا دیا۔ چنانچہ حدیث شریعت میں  
ہے۔

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بَعَثَ لِكَابِيَهُ رَجُلًا وَ  
أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُ فَعَنَهُ إِلَى عَظِيمِ  
الْجَنَّاتِ فَلَمَّا دَعَهُ فَعَنَهُ عَظِيمُ الْجَنَّاتِ  
إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْفَعَهُ  
قَالَ فَلَمَّا دَعَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  
يَعْمَلْ قُوَّاً كُلَّ هَرَزٍ فَ(رَدَاهُ الْجَنَّاتِ)  
شَرَوْبَهُ أَبْنَى بَابِهِ كَمْ دَرَيْتَ  
جَاءَهُنَّ - آبُكَيْ دُعَا قَبْرَلَ بِهِيَ اُورِكِسْرَى كَابِيَهُ

ہر چیز آید پہ تو از ظلماتِ غم  
آن ز نیما کی وگنا خیسته ہم  
بُدْ ز گُشَّتِ خی کسوفِ آفتاب  
شُد غرائز ملے ز جمَّتِ رُباب  
اپنے کیفیت کردار سے غافل شاہ فارس کے عروج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ  
مبارک کو بچاڑ کر صبر نہ کیا بلکہ اپنے صوبہ شاہ مین کو حکم دیا کہ بہت چل دوسرا سی بیچھ کر اس  
بنوت کے تدعی کا سر اتار کر میرے پاس بیچھے سے ریاز نہ کر فتاوی کر کے یہاں روائی کر دے۔

شاہ میں نے بھوجب حکم شاہ فارس کے دو قوی مسلح جوان مدینہ کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پا شہید کرنے کے لئے بھجے۔ یہ دوسرا ہی حب کہ مغلیم کے راستے بدپیہ طبیبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تلاش میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہوتی کہ دوسرا ہی فارس سے آپ کو شہید کرنے کے لئے آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے ہماؤں کو اپھے مکان میں آتا رہو اور اعلیٰ درجہ کی ہمہ نوازی کرو تاکہ ان کی تلکان دُور ہو جائے۔ سات دن تک ان قاتلوں کی ہمہ نوازی فرمائی۔ آنھوں دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم دیا کہ آج میرے ہماؤں کو لا کر ہم سے ملاقات کراؤ، چنانچہ یہ دونو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رُبِّ سے ان کے ہاتھوں میں حُدُش، پاؤں میں خیشی، زبان میں لکست تھی، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں بیٹھنے کے لئے فرمایا، مگر یہ لوگ بجا ٹے بیٹھنے کے اندھے منگر پڑے اس پر آپ نے انکو اٹھا کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور گیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں شاہ فارس نے آپ کے شہید کرنے کو بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ آج رات کو قتل ہو گیا ہے۔ اُس کے بیٹھنے نے اُسکو قتل کر دالا، جاؤ شاہ میں کہ شاہ فارس کے قتل کی خبر کر دو، شاہ فارس کے قتل کی خبر سن کر یہ دوسرا ہی آپ سے رخصت ہوئے اور میں کی راہی۔ حب شاہ میں کے پاس پہنچے تو وہاں شاہ فارس کے مرنے کی خبر پہنچ پہنچ پکی تھی۔ اُس کی سلطنت روئے زمین سے جاتی رہی۔

جانٹے غور ہے کہ جس امت کے رسول اپنے قاتلوں کو سات روز ہمہ رکھیں اور اعلیٰ درجہ کی مذاہت کریں۔ افسوس! ان کی امت کے اخلاقی ایسے خراب ہوں کہ محسن حقیقی رب العالمین کے لئے زبانی شکر بھی نہ کرنے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کفار کہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حب کفار کرنے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ادبی کے باعث عذاب شدید میں مبتلا ہوتا صاحبزادوں کے استقال کے بعد آپ کی ذات پاپر کات کو ابتر دبے نسل کہا تو اُس کے جواب میں اللہ تعالیٰ لانے سورہ کوثر میں یوں ارشاد

فرمایا۔

۷۰

ان شانیک هے الابتر۔ یعنی جو شیرادشمن ہے، وہی بے نسل رہا۔

اس سورہ کا شان نزول اس طرح پڑھئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دو صاحبزادے طبیب و طاہر ام المؤمنین خدیجتہ الکبریٰ کے بطن پاک سے تو لدمہوتے خدا کی قدرت ان دونوں صاحبزادوں کا استغفار یکے بعد دیگرے ہو گیا۔ اس پر کفار کو مکہ مطعن سے ہنسنے لگئے کہ اچھا ہوا مگر کو محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی۔ اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہا۔ جو آئندہ ان کے نزدیک کی اشاعت کرے، اس لئے تمام رگڑے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔

ایک موقع پر عاص بن واصل مسجد الحرام میں داخل ہو رہا تھا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نے جائے ہے تھے تو باہم کچھ بات چیت ہوتی۔ مسجد الحرام کے اندر کچھ لوگ بیٹھے تھے، اُنہوں نے عاص سے پوچھا کہ کس سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے کہا، اس ابتر (پرست) سے بات کر رہا تھا۔ یہ بد بالدن آپ کو ہمیشہ ابتر کے لفظ سے یاد کیا کرتا تھا، اسی کے متعلق یہ سورۃ نازل ہوئی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ سورۃ کعب ابن اشرف یہودی کے متعلق ہے، متعلق یہ سورۃ نازل ہوئی ہے۔ اس کلام سے آپ کو سخت ملال اور رنج ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہوئی ہے۔ بہر حال دشمنوں کے لئے یہ سورۃ نازل فرمائی کہ اگر آپ کے لام کوئی بیٹا نہیں، تو نہ سہی، کیونکہ آپ کی تسلی و تشفی کے لئے یہ سورۃ نازل فرمائی۔ اب اس سے بات ہو جائیں گے۔

وہ سب آپ کے ہی تو بیٹے ہیں۔ آپ ان سب کے روحاں پاپ ہیں لیکن جو آپ کا دشمن تھا، وہی بے اولاد رہا۔ چنانچہ عاص ابن واصل یا کعب ابن اشرف کا آج دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں۔ اوقل تو ان لوگوں کی نسل ہی نہیں۔ اگر بالفرض ہو جی تو یقیناً خود ان کو معلوم نہیں کہ ہمارا مورثت اعلیٰ عاص یا کعب تھا، اور ابتر کا مفہوم اسی سے ثابت ہو جائا ہے۔ بخلاف اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا ڈن کا بخواہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ  
بہر شہر اور ہر سی میں پاونچ وقت باہوا زینہ بجتا ہے۔

ابوالہب اور اسکی بیوی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ الہ وآلہ وسلم الحضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بے ادبی کے باعث عذاب خدا ہے میں مُبیتل ہوئا خواہ صریح ہو یا فحشاً۔ اشارۃ

ہنروہ یا المڑا گاما بخڑھن کسی عذر ہو۔ اس سے کفر لازم آتا ہے چنانچہ بعض آیات میں حضور علیہ السلام  
واسلام کی بیبے ادبی کرنے والوں پر سخت تہذید اور زبرد توہین پانی جاتی ہے۔ چنانچہ تفسیر  
عزیزی میں مرقوم ہے کہ آدمی شرافت اور مال و جاہ پر مغرور نہ ہو رہ اور مفترانہ الہی سے راہ درسم  
درست رکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمحبوب حکم اس آیت کے

وَأَنْذِرْ عَمَّا يُنْهَا  
إِلَيْكَ الْأَفْرَادُ  
(رسورہ شعبان)

رسور کا شعبہ

کوہ صفا پر چڑھ کر تمام قریش کو ہر قبیلہ کا نام لیکر اپنے چھا اور چھو بھی کو نام نہام لکار لیکار کر گذرا  
اللہی کا ذر عشا قیار کر لے بنی هاشم اے بنی عبدالمطلب اے بنی عبدالمٹاف اے عیاض اے اپنا اپنا  
نگہ کرو تو الہم اے محاورے میں کہنے لگا۔

لکر لکر تو اچوہب پے فیصلہ میں بھی  
تباً لَكَ أَنْهَدَ إِذَا دَعَ شَكَاهٌ  
لیکن تیری تباہی سہ کیا تو نہ یہی باقی مانگئے کیلئے ہمیں لکھنے دیا  
اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ وہ یہ ہے۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّتْ  
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ  
سَجَّلَتْ نَارًا ذَرَتْ لَهَبٍ وَ امْرَأَةٌ  
حَمَّلَتْ مِنْ حَصَدٍ  
لِعْنَى دُونِي لِمَتَّهُ طُسِّي الْوَاهِبُ كَمْ اَوْرَدَ لِكَ هُرَّةٌ تَوَاسَعَ  
كَمْ كَامَ اُسْ كَامَ آمَانَ اَوْرَدَهُ اُسْ كَمَايَ سَفَرَهُ عَنْ قَرِيبٍ دَاخِلٍ  
هُرَّكَأَ شَعْلَهُ وَالِي اَكَ مِنْ اَوْرَنِيزَ اَسْ كَيْ جَوَرَهُ - جَرَلَكَرَنِيزَ اَسْ  
پِرَاعَهَاتِي هَيْهَ - اَسْ كَيْ جَرَنِيزَ مُونَخَ كَيْ رَسْتَيَ هَيْهَ -

یعنی قیامت کے دن اُس کے لگے میں رستی کا پھندا ڈال کر  
اُس کو گھسیٹا جائے گا۔ اور اُس کی بے حرمتی کی جائے گی۔ یہ کم بخوبی دُنیا میں اسی عذاب میں ہر ہی  
مارے جنست کے لکڑیوں کا پشتارہ سر برپا ہٹا جائے چلی آبرہی تھی کہ پشتارہ گمراہ گئی۔ اور اس کی رستی  
لگے میں آگئی۔ اور گلا گھٹ کر مر گئی۔

یہ کنجیت رہا ت کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کر قبی نہیں کرے۔ آپ جب علی الصبا حج اس راستے سے گزدیں گئے تو بے خبری کے باعث کانٹے بچھیں گے۔ مدد سے بچھتے در بر تو خارہ دبا ہمہ! چون گل شکفتہ بو درخ جان فراشی تو

**ابو جہل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم** | جب ابو جہل نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیستھے کی بیے ادبی کے باعث دلیل ہو کر مرنے حد سے زیادہ بے ادبی اور گستاخی کرنی شروع کی، یہاں تک کہ اُس نے یہ مضموم ارادہ کیا۔ کہ محمد و صلی اللہ علیہ وسلم حبس وقت سجدہ میں ہوں گے۔ تو میں ان کا سر جسم سے الگ کر دوں گا۔ تو غیرتِ الہی نے اُسکو زیادہ حُملت نہ دی۔ اور ارشاد فرمایا۔

**لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ هُنَّ لَتَبْسُطُ عَنَّا بِالْمَنَاصِيَةِ ۝** یعنی اگر باز نہ آئے گا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے  
ناصیۃ کا ذیۃ خاطیثہ ۝ چوتی پکڑ کر کیسی چوتی۔ جھوٹی خطا کار۔

### رسورہ علق

پھانچے یہ شقی جنگ بدر میں معاذ اور معاذ رضی اللہ عنہما دو الفصار بیوں کے ہاتھ سے وصل جہنم ہوا۔ اور اُس کا سرکاٹ کر سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائے۔ اور اس کا کان چھید کر اُس میں ایک رستی ڈال کر گھستتے ہوئے ایک ناپاک اور نجس کنوئیں میں چینک دیا گیا ہے۔

**از مرکافات عمل غافل مشوا** گندم از گندم بر وید بجز بحو! ایک شخص کا حضرت امام ابو حنیفہ کی منقول ہے کہ ایک شخص امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیے ادبی کے باعث غلبی تلوار سے مارا جانا پاس ہاگر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انسقال ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بدشیک والد صاحب عرصہ ہوا۔ رحلت فرمائے ہیں۔ پھر اُس شخص نے کہا۔ کیا آپ کی والدہ ماجدہ زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ میں زندہ ہیں۔ پھر اُس نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ پڑی خوبصورت اور حسینہ ہیں۔ اس لئے میں اُن سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ اُن کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے یہ امانت خیز سوال میں کر دیکھ کیا۔ اور تبقیاً اصلیٰ ہے اخلاق اس کو جواب دیا۔ تو یہ دیا کہ وہ خود عاقلہ بالغہ ہیں۔ اُنہیں آپ نے نکاح کا اختیار ہے۔ میں انکو محیور نہیں کر سکتا۔ میں البته پرچھو سکتا ہوں۔ اُس مرد نے کہا۔ بہت اچھا دریافت کیجئے۔ خدا کی شان۔ آپ پرچھتے جائے۔

تحتے کہ پیچھے تظرکر جو دیکھا۔ تو اُس گستاخ کی گردن دھڑ سے الگ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دوست اور برگزیدہ کی عزت کی خاطر غیرت آئی۔ اُسی وقت اُس بدبخت کامران سے الگ ہو گیا۔ سے

پا بزرگان مشو بحسلم دلیل  
پس آنها ب تیغ زدن است !  
امانت رسول کا کفر ہونا | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کرنا کفر ہے چنانچہ  
اللہ تعالیٰ کے سورہ فرقان کے پہلے کوئی میں فرماتا ہے۔

یعنی اور کافر کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے۔  
کہ کھانا کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا ہے۔  
کیوں نہیں اتارا گیا اس کی جانب کوئی فرشتہ کہ وہ  
بھی رہتا اس کے ساتھ ڈرانہ والا۔ یا ڈالہ بیجا  
اس کی طرف خزانہ یا اس کے پاس باغ ہر تاکہ  
اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالمون نے کہا کہ  
بس تم تو پسچھے پڑے ہوئے ہر ایک جاذب  
مرد کے۔ دیکھ کیسی بیان کیں تیرے لئے شایں  
پس گراہ ہو گئے۔ اب راہ نہیں پا سکتے۔

کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا اور باغات و عیزہ کا نہ ہونا۔ گو حسب بیان کفار امور واقعی  
ہیں۔ مگر چونکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور بے ادبی متضمن تھی۔ اس لئے  
تو پیغام نازل ہوتی۔ پس ایسا کلام جس سے بھی علیہ السلام کی امانت پائی جائے جسٹا یا التراً یا عَمَدًا  
ہو۔ یا سہوًا۔ غیر واقعی ہو۔ یا واقعی کفر کو مستلزم ہے۔

## انہیا مر سے استہرار اور امانت کرنا کفر ہے

کفر اور بے ادبی کے کھات | انہیا رعلیہم السلام سے استہرار اور استخفاف کرنا کفر ہے۔  
اور جو کوئی ایسا کرے۔ وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ چنانچہ

وَاه عینی شرح کنز میں مرقوم ہے۔

مَنْ سَبَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَيَكْفُرُ فَيُقْتَلُ حَدَّاً وَلَا

یعنی وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلروچ دی۔ تو وہ کافر ہو۔ اور لہذا وہ

وَقَاتُوا مَا لِهُنَّا كَرِهٌ هُنَّا الرَّسُولُ يَأْكُلُ  
الظَّعَامَ وَيُمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ  
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَذَكُورُنَّا  
مَعْدَةً لَذِيْرَانَةً أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ  
أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ كَيْدُكُلُّ مِنْهَا  
وَقَالَ الظَّلِيمُونَ إِنْ تَدْعُونَنَا  
لِجُلَّ مَسْكُونَدَا، اُنْظُرْنَا كَيْفَ ضَرَبُوا  
لَكُنَّ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَمَّا

لَيْسَتْ طَيْعَوْنَ سَبِيلًا

**يُقْبِلُ تَوْبَتُهُ أَصَلًاً**

(۳) تamar خانیہ میں مرقوم ہے۔

مَنْ عَابَ بِنَبِيٍّ بِشَيْءٍ أَوْ لَمْ يُرِفْ  
بِسُنْتَةِ نَبِيٍّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَقَدْ  
كَفَرَ فَمَنْ قَالَ لِوَجْهِ إِحْمَلِ رَأْسَكَ  
وَأَقْلَمَ أَظْفَارَكَ فَإِنَّ هَذَهَا سُنْتَةُ  
رَسُولِ اللَّهِ حَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَقَالَ ذَلِكَ التَّوْجِيلُ لَا أَفْعَلُ وَ  
إِنْ كَانَ سُنْتَةً فَقَدْ كَفَرَهُ

(۴) درختارہ میں مرقوم ہے۔

**يُقْتَلُ وَلَا يُقْبِلُ تَوْبَتُهُ وَمَنْ شَكَّ  
فِي الْحُكْمِ فَقَدْ كَفَرَ وَكَذَّلَكَ  
الْإِسْتِئْزَاءُ وَالْإِسْتِخْفَافُ بِهِ  
عَذَيْدُهُ السَّلَامُ.**

یعنی ایسا شخص قتل کیا جائے۔ اور ایسے شخص کی  
توبہ قبل نہیں ہو سکتی۔ اور جس نے اس کے کفر  
میں شک کی۔ وہ بھی کافر ہوا اور اسی طرح کافر کرتا ہے  
ہذاق کرنا اور بلکہ اچاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو

(۵) امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم کدو کو دوست رکھتے تھے۔ اور دوسرا کہے کہ میں اُسے دوست نہیں رکھتا تو  
تو ایسا کہنا کفر ہے۔

(۶) چلپی میں مرقوم ہے۔ کہ جو کوئی اس طرح کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا  
میلا تھا۔ یا انھن بڑے بڑے تھے۔ یا آپ کو شتر بان کہے۔ تو وہ شخص کافر ہے۔ ایسا شخص قتل کر  
دیا جائے۔ یا اگر کوئی آپ کو بد قطع ڈاٹھی ولے سے تشبیہ دے۔ تو قتل کر دیا جائے۔  
اگر کوئی شخص آپ کو کہے ادبی کا الفاظ خواہ نادانستہ خواہ نشہ میں کہے۔ تو وہ بھی قتل کر  
دیا جائے۔

ط

کتب عقائد میں ہے کہ اگر کوئی آپ کے موئے مبارک کو موبیک بکاف تضییر کرے تو وہ  
کہنے والا کافر ہو جاتا ہے بلکہ جس چیز یا حسی جانب آپ کو نسبت ہو وہ بھی واجب التعذیم ہے  
چنانچہ مروی ہے کہ ایک امیر نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کہا کہ مدینہ کی مشی ناقص ہے  
اماں مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عیسیٰ مختارے لگائے اور قید کیا اور کہا کہ یہ شخص اس بات سے  
گرفتار نہ کے لائق ہو گیا۔

مزدی ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مدینے کا درہ پیلا ہوتا ہے اُس کو غیب سے آواز  
آئی۔ یہ شخص تو مدینہ سے نکل جا۔ تو مدینہ کے لائق نہیں ہے جہاں عمدہ درہ ہے، وہاں  
جا کے رہو، فوراً اُس نے تو بکری اور بہت روپا سے

از خُدُّا خواہیم توفیقِ ادب! بے ادبِ محروم ماند از فضلِ رب  
امنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فخرگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روابط  
نذر کرنے سے آپ کو اذیت کا پہنچپا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے  
تورات کا مطالعہ کرنے کا ارادہ کیا اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حالت تضییر ہو گئی اور چھڑ  
مبارک سے اشارۂ غضب پیدا ہو گئے با وجود علمی عظیم کے ایسے جلیل القدر صحابی پر عتاب فرمایا۔

چنانچہ حدیث شریعت میں ہے۔

یعنی دارمی میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  
ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کا نسخہ لا کر رسول  
الله علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں آکر عرض کی۔  
یا رسول اللہ! یہ تورات کا نسخہ ہے حضور علیہ  
الصلوٰۃ والسلام خاموش ہو گئے تو وہ لگئے پڑھنے  
ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تغیر  
ہونے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ  
کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو کہا۔  
عمر تم تباہ ہو گئے کیا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لِسْنَتَهُ هِنَّ التَّوْرَاةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ هَذِهِ لِسْنَتَهُ هِنَّ التَّوْرَاةُ  
فَسَكَتَ فَجَعَلَ لِقَرَاءَةِ وَوَجْهِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيِّرَ  
فَقَالَ أَبُو بُكْرٍ تَكْلِمُ شَوَّالَ مَا  
تَرَى مَا يَوْجِدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عَمَرًا إِلَى وَجْهِ

دَسْوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ  
 عَذَّاً أَنْ كَانَ لَكَ حِلٌّ  
 وَغَضَبٌ دَسْوِلِهِ رَغْنِيَا بِاللَّهِ رَبِّيَا  
 قَرَبًا لِإِيمَانِ دِينِيَا وَجَاهَدَتِيَا  
 فَقَالَ دَسْوِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ وَالَّذِي لَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدَهِ  
 لَوْ بَدَأَ الْكُرُمُ مُؤْسِي فَاتَّبَعَهُمُوا  
 وَتَرَكُمُونِي لَفَسَلَتُهُمُ عَنْ سَرَاعِ  
 السَّيِّئِيْنِ وَلَوْ كَانَ مُؤْسِي حَيَا  
 اَذْرَكَتْ نُبُوَّتِي لَا تَبْعَثِي  
 زَوَافَ الدَّارِمِيِّ - مِشْكَاةَ

اب ہر عقل سلیم والا سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کی صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع غیرہ بولی تو کسی اور کسی اس تقریر سے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل میں خنک ڈال دیتی ہے کیسی اذیت بہتھی ہوگی۔ لیا یہ اپنے اسی خالی جائے گی۔ ہرگز نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب روایت میں ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَوْمَ دُنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
 لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہے ادبی اور گستاخی کرنے والے آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے۔ اور دنیا میں بھی ان پر لعنت برستی رہے گی۔

بے ادبی اور گستاخی کے تھالص اور ضرر انہوں نے درم  
 از خدا خواہیم توفیق ادب! بے ادب محروم مانداز لطف رب

مولانا فرماتے ہیں کہ ہر وقت ہماری دعا و تمنا اللہ تعالیٰ کے سے یہی ہے کہ ہم کو ادب کی توفیق حاصل۔ اس واسطے کبے ادب بطفتِ رب سے محروم رہتا ہے۔  
 بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد!  
 اور اگر فقط یہی ہو کہ قبھی محروم رہے تو رہے بلا سے۔ سو یہ نہیں بلکہ اس کی بے ادبی تمام جہان کو چونک کر خاک سیاہ کر دیتی ہے، بوجب مثل ہندی کے، کہ گیوں کے پیچے گھن پسجاتے ہیں۔

مائدة آية آسمان در مے رسید

بے شراء و بيع بے گفت و شنید

چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ آسمان سے اچھا خاصا بے گفت پکایا کھانا آتا تھا بے خرید و فروخت، نہ کسی سے کہنا نہ سُفتا۔ اور وہ من و سلوے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلُوْنِي۔ مريم نے تم پر من اور سلوی آتار کہ یہ بھی طعام ہی تھا۔

در میانِ قومِ موسیٰ چند کس! بے ادب گفتہ کو سیر و عدس آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند شخص بے ادب کہہ اٹھے، کہ ہم سے یہ ایک کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اور درخواست کی کہ یہیں یہ چیزیں درکار ہیں۔  
 مِنْ يَقْتِلُهُمَا وَقِتَّا لَهُمَا وَفُؤْدِهَا (یعنی ساگ پاٹ اور ککڑی اور گیوں اور وَعَدَ سِهِهَا وَبَصِلِهَا دی پاع) سورا در پیاز وغیرہ۔

منقطع شد خوان و نان ازاً سماں ماند زریخ زرع و بیل و داسماں پس اس نے ادبی سے خوان و نان کا آنا آسمان سے موقوف ہو گیا اور یہ بھیرا کھینچی اور پھاڑنے پسیہ کام مرپر پڑا۔

باز علیے اچوں شناخت کر دھن! خوان فرستاد و غنیمت پر طبق الغرض اور کی کیتھیت موسیٰ علیہ السلام کے ذمۃ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حسب درخواست خواریوں کے شفارش کی تو پھر اللہ

تبارک و تعالیٰ نے مفت کا خوان پر طبقِ آن کو بھیجا جسی میں روٹیاں اور گوشت نشک بیاں اور چھلی شہد سرکہ نمک مریخ پسا ہوا ایک اپر کے نوری ٹکڑے میں رکھا ہوا اور ایک ٹکڑے سے چھپا ہوا آئے لگا۔ ۷

ما نَدَهَا ازْ أَسْمَاءِ شُّدَّدَ عَامَدَهَا چونکہ گفت آنْزَلْ عَلَيْنَا مَا يُدَّكَ  
اوْدَهِي خوان آن پر عالم دھوا اور لوٹا جب حضرت علیے علیہ السلام نے کہا۔  
اللَّهُمَّ رَبِّنَا آنْزَلْ عَلَيْنَا مَا يُدَّكَ یعنی اے ہمارے پروردگار! ہم پر خوان  
(سورہ باندرہ کوشع) نازل کر۔

پا زِ گُشْتاخان اه بِ بُجْدَا شَتَّى! چون گھایاں ز تھا برداشتند!  
چھر گستاخوں بے ادبیوں نے ادب چھوڑا اور فیروں کی طرح دوسرے وقت کے لئے کھانا رکھنے لگے اور اس کی محاذت تھی۔ ۷

کرو یعنی لا یہ ایشان را کہ ایں! دائم است وکم نگرد و از ز میں ا  
جب انہوں نے رکھنا شروع کیا تو حضرت علیے علیہ السلام نے نہایت نرمی و غاجزی سے کہا  
کہ ایسا مبت کرو یہ خوان ہمیشہ ہے کبھی زمین سے کم نہ ہو گا۔ ۷

بِدْگَافِ كَرْدَن وَ حَرِصِينَ آَوْرَى! كفر باشد نزد خوان مہتری!  
یہ خوان نجماًتِ الٰہی ہے اس پر بند ہونے کی بِدْگَافِ کرنا اور حرص بننا کفر ہے۔ کوئی کسی سردار  
کے خوان پر بھی ایسی بِدْگَافِ نہیں کرتا۔ ۷

زَانِ گَدَارِ وَيَا تَادِيدَه زَانِ زَا آں در رحمت بر ایشان شد فراز  
مان و خوان از آسمان شد منقطع بعد زان خوان نشد کس منقطع!  
انجام یہ ہوا کہ انہیں گدار و ندیدوں کی حص سے وہ دروازہ رحمت کا جوان پر کھلا تھا، بند  
ہو گیا۔ اور وہ زوٹی اور خوان آنا آسمان سے ایسا منقطع ہو گیا کہ پھر کوئی اُس سے فائدہ مند  
نہ ہوا۔ ۷

ابن ناید از پیشے منع ذکر است وز زنا افتاد و با اندراجات  
مولانا فرماتے ہیں۔ دیکھو زکرۃ نہ دینے یا زنا کرنے کا دبائل کس قدر شدید ہے کہ چند اشخاص

کی حرکت سے عالمہ انس مُبتلا تھے عذاب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سب لوگ زانی اور صاحبِ نصاہہ نہیں ہوتے۔ بلکہ شہر بھر میں قدرے کے قلیل مگر جب زکوٰۃ نہ دینے کے وباں سے تحفظ پڑتا ہے تو انہیں قدر قلیل کی بدولت تمام شہر والے آفنت جو ع میں گز نثار ہو جاتے ہیں ایسے ہی چند نانیوں کے گناہ کی شامست سے سارا شہر مُبتلا تھے وبا ہو جاتا ہے۔ ۵

ہر چیز بر تو آید از ظلماتِ غم! آن زیبای کی وگستاخی است ہم!

الحاصل چو کچھ تجھ پر عنہ کے انہیروں سے آئے وہ تیری ہی بے باکی اور گستاخی سے ہے۔ ۶

ہر کار گستاخی کستہ بر راہِ دوست رہن سرداں شد و نامرد اوست پس جو کوئی گستاخی راہِ دوست میں کرے یعنی جو راہِ خوبیت کی نکالی ہوئی ہے اُس کے خلاف پھلے۔ وہ مردوں کا راہنما ہے کہ اُس کو دیکھا دیکھی اور بر راہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ خود نامرد ہے کہ خلافِ مردی کی کام کرتا ہے۔ ۷

از ادب پر نور گشہ است این لذک وزادب معصوم و پاک آمد لذک

مولانا فرماتے ہیں کہ ادبِ حسیں سے مراد یہ ہے کہ ہر امر کی حدود کو ملاحظہ کھا جائے۔ ایسی چیز ہے کہ اسی کی برکت سے فلک روشن ہو رہا ہے یعنی جیسا حکم گردنش کا مالک نے دیا ہے ہمیشہ اسی گردش پر چلا جاتا ہے، سر موافق نہیں کرتا۔ اپنے اسی حسینِ انتظام کی بدولت دن کو آفتاب سے رات کو ستاروں اور مہتاب سے ٹھوکر رہتا ہے۔ اور اسی ادب کی بدولت فرشتے معصوم و پاک ہوئے کہ جو فرمان مالک کا اُن کو ہے۔ اسی کا جزا اوری میں مصروف ہیں کہ بدوں مرضی مالک کچھ نہیں کرتے۔

بُدْرَ گستاخی کسوفِ آفتاب! شد غرائز یلے زجراتِ رِدِ باب

اور گستاخی کہ شوخي و بے ادبی کو کہتے ہیں۔ ایسی بُری شے ہے کہ اس سے آفتاب جیسی روشن چیزیں اُنماریک ہوئی جیسا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اُن کے قاتلوں کے جرم کی شومی سے تین دن کسوف رہا۔ اور اسی گستاخی کی وجہ سے عزاداریں بھر لعنت میں ڈبو یا گیا کہ بعد حکم سجدہ اُنم علیہ السلام اُس نے دلیر ان کہا۔

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي هُنْ نَارٍ وَّ  
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَّ رَبِيعٍ  
یعنی میں آدم سے بہتر ہوں۔ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور  
اسکو مشی سے۔

اور حکم الحاکمین کے حکم کو نہ مانا جس کے باعث لعنت کا طوق اسکے لگئے ہیں  
ایسا کا ذکر ڈالا گی۔  
تکبیر عز از دل را توارد کر دا۔ بزرگانِ لعنت گرفتار کر دا۔

## باب حرام

### امدازہ عظیم حضرت پر نظر صحابہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
صحابہ کا طریق آداب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کلام مجید میں متعدد مقامات پر  
ارضاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، کلام الہی کو بحق مانتے ہیں اور خدالئے تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ جہاں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان ہوتا ہیں اور جو لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جہاں طرح طرح کے عذاب ہیں، چونکہ صحابہ کو خدا اور رسول کے ارشاد پر یقین و اثنی اور عشق کامل تھا۔ اس لئے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے رہتے کہ اپنے کام کریں جس کے باعث دوزخ سے محفوظ رہ کر جنت کے مستحق ہو جائیں۔ جہاں اس محبوب حقیقی کے جاں لائیں اس کے مٹا بدھ سے بہرہ و تہرہ ہوں گے۔

یوں تو ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ اچھا ہے اور اپنے آپ کو اچھا نکار کرتا ہے جتنی کہ ایک بد کردار بھی اپنے آپ کو نیکو کا سمجھتا ہے سے۔

پر کسے خود را ناید پایزید۔ نیک چونیں بیٹیں باب اندبایزید  
مگر اصحاب کرام کے حالات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے اعمال و افعال میں کیا نسبت ہے اور ان کو خدا اور رسول کے ساتھ کس درجہ کا عرض ہے اور ہم کو کتنا مُسلماً نہ! اصحاب کرام وہ لوگ تھے جن کی افضلیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ای دی ہے پناہچو ویلی نے مندرجہ ذیل میں ذکر کیا ہے۔

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کوئی قلب میرے صحابہ کے قلوب سے بخرا کیا پاکیزہ نہیں دیکھا۔ اس لئے انکو میری صحابت کے لئے پسند فرمایا جو کچھ وہ اچھا سمجھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے۔ اور جو بُرا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُرا ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  
نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَلَمْ يَجِدْ قُلُوبًا  
الْمُقْتَدِيَّةِ مِنْ قُلُوبِ أَصْحَابِيْتِيْ وَلِذَاكَ  
إِخْتَارَهُمْ فَجَعَلَهُمْ مِنْهَا أَسْتَحْسَنُوا  
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا أَسْتَغْبَحُ  
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيلٌ۔

غرض صحابہ کرام کے دلوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بڑی عظمت تھی۔ اور وہ آپ کے آداب کی رعایت رکھتے تھے، باوجود اس کے اگر کسی سے مبتلقنائے بشریت یا سادگی سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی جس میں بے ادبی کام شاپہر ہوتا تو ساتھ ہی کلام الہی میں نبیہ اور زہر و توبہ نسخ نازل ہوتی جس سے سب متنبہ اور ہوشیار ہو جاتے یہ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصحاب کرام کے قلوب میں آپ کی تعظیم و تکریر اس قدر جاگنے میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ و بات نہ کر سکتے تھے اور اگر ان کو کچھ دریافت کرنا ہوتا تو کئی دنوں تک خاموش رہتے اور موقع کے منتظر رہتے یا کسی بد دی کی فکر میں رہتے کہ وہ آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھے اور ہم استقادہ کریں یکونکہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و احتجاج کے باعث خود دریافت نہ کر سکتے تھے اور جب مجلس شریف میں اگر بیٹھتے تو بالکل بے حس و حرکت سر نیچپے کئے بیٹھتے کبھی لگاہ اٹھا کر بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف نہ دیکھتے۔

صحابہ کرام کے آداب کا بندگی تحریر میں نہیں آسکتے کیونکہ ادب ایک کیفیتِ قلبی کا نام ہے جس سے مختلف اقسام کے آثار و افعال ظہور میں آتے ہیں۔ اسکو بیان کرنا امکان سے خارج ہے مگر چند آثار اقسام کئے جاتے ہیں جن سے عرض یہ ہے کہ مسلمان اور حضرت کی کیفیتِ قلبی کو پیش نظر کھکر اس قسم کی کیفیتِ قلبی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

## صَدِيقُ الْأَكْبَرِ كَاظِمُ اَدْبِرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحیح بخاری میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر و بن عوف میں صلح کرنے کے واسطے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مودع نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر اقامت کہی اور انہوں نے امامت کی۔ اس عرصہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تشریف فراہو گئے اور صفت میں قیام فرمایا۔ جب نمازیوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا تو دستک دینے لگے اس غرض سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خبردار ہو جائیں۔ کیونکہ ان کی عادت تھی کہ نماز میں کسی طرف دیکھتے نہ تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دستک کی آواز سنی تو گوشہ پر ہٹ سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرمائیں۔ لہذا پیچھے ہٹنے کا قصد کیا اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اشارہ سے فرمایا کہ اپنی ہی جگہ پر قائم رہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دو تو ہاتھ اٹھائے اس نوازش پر کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے امامت کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کاشکر ہے ادا کیا اور پیچھے ہٹ کر صفت میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ابو بکر اجنب میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون چیز بالغ ہوئی تھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فحافہ کا بیٹا اس لائق ہنہیں کہ

“أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَمَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”

اب یہاں گھری نظر کی ضرورت ہے کہ باوجودیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا مگر ان سے امتناع نہ ہو سکا جائے اللہ تعالیٰ سورہ حشر کو راجع ایں ارشاد فرمائے ہے۔

وَحَمَّالُ الشَّكْرِ الرَّمُولُ مُخْذُوذٌ  
وَمَا أَنَّهَا كُفْرٌ عَمَّا نَهَى فَمَا نَهَى

یعنی اور حکم دین تم کو رسول تو اُس کو فعل کرو۔ اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔

اسی آنکھ کی حکمت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حال میں بالتفصیل لکھی گئی ہے۔

کنز الحال میں مروی ہے۔

لیکن ایک اعرابی حضرت ابو بکر صدیق رضی  
اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا  
کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں؟  
آپ نے فرمایا نہیں۔ اُس نے کہا۔ پھر کیا ہوا  
آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم کے بعد خالفہ ہوں۔

قالَ أَبْنَى الْأَعْدَادِ رُوِيَ أَنَّ  
أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَيْهِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ  
أَنْتَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَالَ  
فَهَا أَنْتَ قَالَ الْخَالِفَةُ لَعْنَكَ

جو ہری نے صحاح میں کہتا ہے کہ خالفہ اُس شخص کو کہتے ہیں۔ جو کسی گھر کے  
سب لوگوں میں ایسا ہو جیسی میں کچھ خیر نہ ہو۔ پونکر نزیفہ جانشین کو کہتے ہیں۔ صدیقؑ کی  
رضی اللہ عنہ کو ادب نے اجازت نہ دی کہ اپنے آپ کو اس لفظ کا مصدق سمجھیں اس  
لئے اُس کو ایسے طور سے بدلا۔ جس میں مادہ خلافت باقی رہے۔ اور ادب بھی یا مذکور  
نہ جائے۔ حالانکہ آپ کی خلافت احادیث صحیحہ سے صراحت ثابت ہے۔

جائز غور ہے کہ جب حضرت صدیقؓ اکبر رضی اللہ تعالیٰ اعنہ اپنے آپ کو حضور  
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلیفہ کہنے میں تماش کرتے ہیں تو اب ان لوگوں کو کیا کہیں جو کمال  
قمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری اور بھائی پیونے کی نسبت لگائے  
ہیں معلوم نہیں کہ اُس برابری سے اُن کا مقصود کیا ہے۔ اگر اُن کو اپنی فضیلت ظاہر  
کرنا منتظر ہے تو وہ خصوصیات حضور کہاں ہیں۔ جو نہ کسی بیوی مرسل کو نصیب ہوئیں  
اور نہ کسی فرشتہ مقرب کو ملیں۔

کافر ای دید نہ احمد را البشد

اگر بصورت آدمی انسان بجئے

افسوس ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ سہ

در محققے کہ خور شید اندر شمار بر ذرہ ہست

خود را بند رگ دیدن مشرط ادب نباشد

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے باپ کو ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی  
اللہ عنہ کی طماںچہ مانزا [اللہ عنہ کے والد ابو قحافی نے  
کفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکی شان میں کوئی ناشائستہ کلمہ مُنذ سے نکالا۔  
اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کے مذہ پر طماںچہ کھینچ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے  
پاس تلوار نہ تھی ورنہ ایسی گستاخی پر اس کی گردن اڑا دیتا۔ اسی وقت آپ کی شان میں  
یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُرْهِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
وَاللَّهُ أَوْرَادُهُمْ إِلَيْهِمْ وَمَنْ  
هَادَ اللَّهَ فَإِنَّمَا يُهْدِي  
هُنَّا دُشِّنَةَ الْمُجْرِمِينَ

تو نہ پائے گا ان لوگوں کو جو لقین رکھتے ہیں  
اللہ اور روز آخرت پر کہ وہ ایسوں سے  
دوستی کریں جو مخالفت ہوتے اللہ کے اور  
اس کے رسول کے گو وہ ان کے باپ  
ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا  
ان کے گُنہگار کے ہی ہیں جن کے دلوں میں

اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی  
تائید کی اپنے فیضانِ غیبی سے اور  
ان کو داخل فرمائے گا۔ ایسے یاغوں  
میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہیں ہمیشہ وہیں  
رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی  
یہ خدائی لشکر ہے۔ خبردار ہو جاؤ اللہ کا شکر  
وہی فلاح پانے والے ہیں۔

اَخْوَانَهُمْ اَوْ عَيْشِيلَرَ قَهْمُمْ طِ  
اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ  
اَلِإِيمَانَ وَآيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ بِحَرَقٍ مِنْ  
مَنْ تَحْتَهَا اَلَا نَهَرُ خَلِيدُنَ فِيهَا طِ  
وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَدَعْنُوا عَنْهُ  
اُولَئِكَ هُنَّبَطُ اللَّهُ طَا الْآَنَّ  
بِحَرَقَ اللَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هِ

(رسورہ محاولہ ۲۴)

دیکھئے۔ اس آیت مبارک سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیسی شان پاپی

جائی ہے۔

پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایامِ خلافت میں اُسی منیر نے پڑھ کر خطاب  
دینا چاہا تو اس درجہ سے بھی نبی کے درجے پر پڑھ کر ان کے تزدیک مقام رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ادب  
بھی یا جب تھا۔

از خدا خواهیم توفیق ادب! بله ادب محروم ماند از فضیل رب

**حضرت عمر حطاب رضی اللہ عنہ کا طریق اور پرسوں**

حضرت عبیاس رضی اللہ عنہ کے مکان کی چیخت پر ایک پر نالہ تھا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑے پہنچتے ہوئے مسجد کو جا رہے تھے۔ جب اس پر نالے کے قریب پہنچے، اتفاق نے اس دن حضرت عبیاس رضی اللہ عنہ کے گھر دو مرغ ذبح کئے جا رہے تھے۔ یہ کام اُن کا خون اس پر نالے سے ٹپکا اور اُس کے چند قطرے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ آپ نے اس پر نالے کے اکھاڑہ ڈالنے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگوں نے فوراً اس پر نالے کو اکھاڑ دیا۔ اور آپ گھر واپس آگر دوسرے کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لائے۔ ادلت نماز کے بعد حضرت عبیاس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آگر کہتے لگے۔ یا امیر المؤمنین اخدا کی قسم اس پر نالے کو جسے آپ نے اکھیر ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر منایت مضطرب اور پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عبیاس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے عبیاس! میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ اپنے پیر میرے کندھے پر رکھ کر اس پر نالے کو جیسا حصہ علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھا یا تھا

اس جگہ پر لگا دو۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر اسکو پہلی جگہ پر لگا دیا۔  
دیکھئے حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے دل میں حضور علیہ المصطفیٰ و السلام کی کس قدر عظمت اور عزت تھی۔

## حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طریق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف جنگ حدیثیہ میں صلح کے واسطے عجیب اتو قریش نے عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کرنے کی اجازت دی  
لیکن آپ نے طواف کرنے سے انکار کیا اور اپنے پروردگار کے حکم  
**يَا يَهُوَ الَّذِينَ امْتَنُوا لَا تُقْدِمُوا** اُسے ایمان والوں اور اس کے رسول  
**بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ** ہے آگے نہ بڑھو۔  
اپنے آنے کے نامدار کا ادب و تعظیم مد نظر رکھ کر فرمایا۔

**مَا كُنْتَ لَا فُعْلُ حَتَّى يُطْوَفَ** یعنی میں طواف نہ کروں گا جیسے تک میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں گے۔  
دیکھئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریعت کے طواف کرنے کے مقابلے میں دجوں عبادت میں داخل ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رعایت ادب کو افضل جانا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ کوئی عبادت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رعایت ادب کے برابر نہیں ہے۔

اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد صاحبہ کرام اور تابعین عظام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اور کلام کے ذکر کے وقت آپ کی تعظیم و توقیر فرمایا کرتے اور آپ کا ادب ملحوظ رکھتے تھے۔

کنز العمل میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اسلام میں چوتھا شخص ہوں اور میرے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صہبہ ادا  
یکے بعد دیگر نے دی ہیں اور میں نے جب سے اپنا دامنا لا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے

دست مبارک سے ملایا ہے اُس دن سے میں نے اس لامتحہ سے اپنی شرماگاہ کو کبھی نہیں  
چھوڑ دیکھیا گئے سعادت)

اوپ کا یہ وہ مرتبہ عظیم ہے جس پر ہر شخص مختلف نہیں بلکہ یہ صرف حضرت عثمان رضی  
الله عنہ کا ہی حصہ تھا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ قَلَّ مَيِّسُوقٌ ذَكْرُهُ      یعنی جب کوئی پاخانے جائے تو دائیں لامتحہ  
سے اپنی شرماگاہ کو نہ چھوٹے نہ اس سے بخاست پڑے  
بِيمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيمِينِهِ

دوسری حدیث ہے۔

كَانَتْ يَدُ دَسْوِيلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ يَدُ دَسْوِيلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينَ لِطَهُورِهِ وَ  
دَيْمَانَ لِطَهُورِهِ وَخُونَ كَرَنَةَ اُولَئِكَ هُنَّ طَعَامٍ وَكَانَتْ يَدَهُ الْمُسْرَوَى  
أَوْ كَانَتْ يَدَهُ الْمُسْرَوَى أَوْ كَانَتْ يَدَهُ الْمُسْرَوَى  
أَوْ كَانَتْ يَدَهُ الْمُسْرَوَى

اور ہر مکروہ چیز کے لئے تھا۔

ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ دائیں لامتحہ کو نہیں لامتحہ پر اسقدر برتری بنتے کہ پاخانہ  
وغیرہ کی حالت میں اُسے مکروہ و نجیس اشیا کو چھوٹنے سے بچایا جائے اور اس خدمت کے لئے  
صرف باعثیں لامتحہ کو مخصوص کر لیا جائے مگر حضرت عثمان رضی الله عنہ نے اس فضیلت کی بناء  
پر کہ ان کا لامتحہ ایک مرتبہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لامتحہ سے چھوڑ چکا ہے  
اس کے شرف کو اسقدر وسیع اور عام کر لیا کہ خلاء وغیر خلاء وغیرہ کی حالت میں بھی مدحت  
العمر اس سے مس ذکر نہ کیا۔ یعنی دائیں لامتحہ کی جو فضیلت حالت خلاء میں مس ذکر سے مانع تھی  
وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے لامتحہ کے چھوٹنے کے باعث اسقدر وسیع کر لی کہ غیر خلاء  
کی حالت میں بھی اس سے مس ذکر گوارانہ کیا۔ یا ایوں سمجھو کہ اگر شرع نے دائیں لامتحہ سے مس  
ذکر کرنے سے اس لئے مشع کیا ہے کہ وہ باعث سے اشرف ہے تو حضرت عثمان رضی الله عنہ  
نے اس کے عدم مس ذکر کی علت بجاٹے اس کے دائیں ہونے کے اس امر کو ثوار دیا کہ وہ رسول  
الله صلی اللہ علیہ وسلم کے لامتحہ کے ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ فافهم

اوپ ایک اور پہلو پر نظر کرنی چاہئے یعنی اگر اس لامتحہ میں کسی قسم کی برکت پیدا ہو گئی تھی

تو شرمنگاہ میں کوئی براہی رکھی تھی جس کو وہ متبرک طائفہ لگانا مذموم سمجھا گیا۔ حالانکہ احادیث و آثار سے مقرر ہے کہ وہ بھی ایک عضو ہے مثل اور اعضاء کے پیشہ خداوند شریعت میں ہے۔

لیعنی مؤطا امام محمد میں قیس بن طلق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اکہ تناسل کے چھوٹے سے وضو تو طلاق ہے فرمایا وہ قوا ایک دلکشا ہے یہ یہ ہے

جسم کا۔

لیعنی مؤطا امام محمد میں مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ پرواہنیں کہ ذکر کو مس کروں یا ناک کو یا کان کو یعنی ان تمام اعضا کے چھوٹے کا ایک ہی حکم ہے۔

لیعنی مؤطا امام محمد میں ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مس ذکر سے وضو تو طلاق ہے یا نہیں کہا اگر وہ نہیں ہے تو اس کو کاش ڈال۔

۱) عن قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَحِيلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ مَسَّهُ ذَكْرٌ أَيْتَوْ حَضُورَهُ قَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا يَضَعَةٌ

مِنْ جَسَدِكَ ۝

۲) عن عَلَيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَا أَبَلِي رِايَا كَمْ أَمْسَى أَوْ أَلْفَى أَوْ أُصْنَى ۝

ر) عن إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَ عَنِ الوضُوءِ مَنْ مَسَّ ذَكْرَ اللَّهُ كَرَّ فَقَالَ إِنَّ كَانَ فِي حَسَنَاتِ فَاقْطَعْهُ

الحاصل شرعاً بول و بران کی حالت کے سوا دیگر حالت میں میں ذکر ہیں کوئی کراہت نہیں البتہ اگر کراہت ہے تو طبعی ہے پھر اس کراہت طبعی کو ادب نے وظیں اس درجہ بڑھایا کہ مشاپہ بلکہ زیادہ کراہت شرعاً سے کردیا جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عمر بھر اس فعل سے بچتے رہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ادب ایک الیسی چیز ہے کہ اپنا پورا اثر کرنے میں نہ منتظر امر نہیں۔ نہ محترم نظر بدلکہ اہل ایمان میں وہ ایک قوت را سخن ہے جس کو خاص ایمان کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا منشائ غلطیت و قوت اس شخص یا اس چیز کی ہے جس کے آگے ادب کرنے والا اپنے کو کم درجہ اور ذلیل سمجھتا ہے۔

## حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریق اور رسول ﷺ

صحیح مسلم میں برادر بن عازب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے جب وہ صلح خاتمه لکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار کے درمیان حدیثیہ کے دن پڑھرا تھا جس میں یہ عبارت تھی۔

هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ

تو مشکوں نے کہا کہ لفظ رسول اللہ نکھو۔

کیونکہ اگر رسالت مسلم ہوتی تو پھر کیا گیا تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ و جہہ سے فرمایا کہ اس لفظ کو مٹا دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو اس لفظ کو مٹا سکوں لہذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اُس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا۔

اب یہاں تعمیق نظر کی ضرورت ہے باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ و جہہ کو لفظ رسول اللہ مٹائے کا امر فرمایا تھا مگر ان سے امتناع نہ ہو سکا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورۃ حشر رکوع امیں ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ      یعنی اور حکم دیں تم کو رسول تو اُسکو قبول کرو  
وَمَا تَهْكِمُ عَنْهُ فَأَنْتُمْ شُهُودٌ ۚ      اور جس چیز سے منع کریں اُس سے باز رہو۔  
سورہ احزاب رکوع ہے میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ۚ      یعنی اور یہ حق نہیں کسی ایماندار مرد کا نہ عورت  
كَاجِبٍ فَيُصْلَكُ كَمَا أَنَّ اللَّهُ أَوْ رَأْسُكُمْ كَمَا سُرُوكَ ۚ      ادا قضی اللہ و رسولہ امرًا  
كَأَنْ كُوْنَ كَمْ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ ۚ      آن یکوں لہمُ الْخَيْرَةُ مِنْ  
تَنْفِيْذِهِ ۖ وَمَنْ لَيَعْصِ اللَّهَ ۖ ۗ ۚ      امرِہِمْ وَمَنْ لَيَعْصِ اللَّهَ ۖ ۗ  
سُوراہ تہجیلا صریح چوک کر۔      وَرَسُولُهُ فَقَدْ حَنَّلَ هَنَالِكًا ۖ  
مُبَدِّيًّا ۖ

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کے دفعیہ کے لئے تعمیق امتنالِ امر شہ ہونے کی لازمی نظر درکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کا تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات سے عدولِ حکمی عمل میں کئی ہو۔ وہ بھی کس موقع میں چیکہ خود اخضطر حصے اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفسیں رو برو حکم فرما رہے ہیں۔ اور اس کا بھی انکماز نہیں ہو سکتا کہ اُن حضرات میں کویا سرتبا بی کامادہ ہی نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر انقیاد کیا ہو کہ ایک آشاد پر جان دینا اُن کے سب منے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عدولِ حکمی خلافِ مرضیِ خدا و رسول تھی۔ یکیونکہ اگر یہ بات ہوتی۔ کو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ای کو زبرد توبیخ فرمادیتے۔ بلکہ کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ اس لئے کہ ان حضرات کی تأدیب کا لحاظ بیش از پیش مرعی تھا۔ اس وجہ سے کہ وہ حضرات ایک عالم کے مقتداء ہونے اور دُنیا کے لئے نمونہ بننے والے تھے۔ غرض ان تمام امور پر نظر ڈالنے سے پریشانی ہوتی ہے۔ مگر یہ غلط جان اس طرح سے دفع ہو سکتا ہے کہ ان حضرات کا پاس ادب جو سچے دل سے تھا۔ وہ کچھ ایسا باقروغ تھا کہ اُس کے مقابلہ میں وہ عدولِ حکمی قابلِ التفات نہ ہوئی اگر اس حالت کو غیاب کیجئے۔ بشرطیکہ دل میں وقوف و عظمتِ اخضطر حصے اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر ہو۔ تو معلوم ہو گا کہ ان حضرات کے دلوں کا اس وقت کیا حال ہو گا اُدھر خود بنفسِ نفسیں سید المرسلین حصے اللہ علیہ وسلم بالمواجه حکم فرما رہے ہیں۔ اور ایک طرف سے آیات و احادیث با وائزِ بلند کہہ رہی ہیں کہ خبردار امر و احیب الانقیاد سے سرمو اخراج نہ ہونے پائے اور ادھر ادب کا دل پر اس فدرات لکھ رہے کہ امتنال کے لئے نہ ٹھہری پاری دیتے ہیں نہ پاؤں۔ آخر ان بزرگوں کو ادب نے اس قدر مجبو رکیا کہ امتنال امر ہر ہی نہ سکا اور انہوں نے وہی کیا جو مقتضائے ادب تھا۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حب نصیق قطعی کے مقابلہ میں آخر ادب ہی کی ترجیح ہوئی۔ تو دین میں اُس کو کس قدر باوقعت اور صرداری چیز سمجھنا چاہیئے۔ ۵

شدادب چملہ طاعنتی محمود  
طاعنتی بے ادب ندارد سواد!

## حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نازِ عصر کو اخ حضرت کی اطاعت کے عہد و صورت کرنا

شفاقاضی عیاض میں مردی ہے کہ جنگ خیبر کی والی پی میں منتزل صہیب اپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر ادا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جماعت میں شامل نہ ہو سکے۔ تو آپ نے اسی وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانوئے مبارک پر سر کھ کر امام فرمایا، پونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نمازِ عصر نہیں پڑھی تھی اس لئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ نمازِ عصر کا وقت گذرا رہے جو سب نمازوں سے افضل ہے اور جس کی تائید قرآن مجید میں تبکار عطفت فرمائی۔

**حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ**      یعنی حفاظت کرو اوزنگاہ رکھو تم نمازوں کو  
**الْوُسْطَى**      (رسورہ یقرہ کو ۳۱) اور نماز وسطی یعنی نمازِ عصر کو۔

خدق کے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر کے فرست ہو جائے پر کفار کے داسطے یہ بد دعا فرمائی۔

**حَبَسُوكُنْتُمْ حَتَّىٰ الْوُسْطَىٰ**  
**حَسَلَوَةً الْعَمَّصِيرَ مَلَّا ۚ ۖ إِنَّ اللَّهَ**  
**بِيُوتِهِمْ وَقِبُوْدَهُرَ فَادَّاهُ**      لگرون کو آگ سے بھڑے۔

با وجود اتنی تائید کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بعد امازِ عصر کو ترک کیا بھن اس خیال سے کہ آگ میں اپنا زانو بڑاؤں گا، تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیدار ہو جائیں گے اور آپ کے خواب میں خلل آجائے گا۔ لہذا آپ نے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث زانو کو نہ ہلاکیا بھی سکی کہ آنتاب غربوب ہو گیا اور نمازِ عصر کا وقت چاتار ٹرا۔ مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیدار ہئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز کے فرست ہو جائے کا حال عرض کیا جحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ العالیین اگر علی تیری اطاعت میں تھا، تو پھر آنتاب کو طلوع کر دے۔ پس اسی وقت ڈوبا ہوا آنتاب پلٹ آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہایت تسلیکین کے ساتھ نمازِ عصر ادا کی۔ پھر اُنکتاب حسب معمول غریب ہو گیا۔

ثابت ہوا کہ جملہ فرقہ فرشتے ہیں اصل الاصول بندگی اس تا جوڑ کی ہے۔

الغرض اطاعت و فرمانبرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امر میں واجب و لازم ہے جس نے تصدیق رسالت کی مگر اتباع و اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کی وہ گمراہ ہے۔

اس حدیث کو روایت بیان طحاوی نے مشکل الامار میں دو طریق سے ایک روایت اصحابت عبیس سے دوسری فاطمہ بنت حسین سے۔ تقاضی عیاض نے شفایم سیوطی نے الدار المنشرة فی الاٰثـــث المشهـــر میں اور حافظ ابن سید النـــاس نے بشری التبیب میں اور اس حدیث کے دونوں طریق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سلسلہ اللہ بھری میں مدینہ منورہ میں اپنے اساد شیخ ابو طاہر سے مسلسل فاطمہ بنت حسین تک اور اسماء بنت الحکیم تک ازالۃ الخفاء میں نقل کئے ہیں۔

ازالۃ الخفاء میں ہے کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو موصوع کہا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ ابن جوزی حدیثوں کے موضوع کہنے میں بہت جلدی کرنے والے ہیں۔ پھر کیف یہ حدیث صحیح ہے۔  
صواتی میں ہے کہ عراق کی ایک جماعت مشارح ابوالمنصور مظفر بن اردشیر قنادی رحمۃ اللہ علیہ کے دعاظ میں حاضر تھی جبکہ وہ نمازِ عصر کے بعد دعاظ فرمائے تھے اور یہی حدیث اور اہل بہت کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ یہاں یہ اپنے اہل آنف افتاب پھٹپ گی۔ لوگوں نے گمان کیا کہ آنف افتاب عزوب ہو گیا پس اپنے منبر پر کھڑے ہو کر آنف افتاب کو اشارہ کیا۔ اور یہیں اشعار پڑھے ہیں کامطلب یہ ہے ۔۔۔

کر رہا ہوں میں بتو فیق خدا      لغت و دریح مصطفیٰ و مرآفہ  
تو نہ ڈوب لے شمس تباہ پڑھیا!      سُن لے تو بھی وصفِ آئی مصطفیٰ  
وہ جماعتِ حاضرین کہتی ہے کہ اسی وقت ڈوبا ہوا آنف افتاب پھر نکل آیا ہے  
اویسا دراہست قدرت ازالۃ  
تیرچستہ بازگردانند زراہ



## حضرات قیامت عثمان و عباس میر رضی اللہ عنہم کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

بیہقی نے دلائل النبوت میں ابی الحویرہ ش رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عبد الملک بن مردان نے قیامت بن اشیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اکبر سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر تھے۔

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُو نَحْنُ جُوابُ دِيَارِكَ كَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَسْنَنُ مِنْهُ مَجْوِسٌ بُرُّ مَسْجِدٍ اذْرِيزُ عُمُرِي مِنْ أَنْ سَعَ زِيَادَهُ هُوَ اُسْ اَنْتَ كَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ وَلَادَتْ شَرِيفَ عَامِ فِيلَ مِنْ هُوَ اُسْ مَجْهِي يَا وَلَدُ بُرٍّ تَمَّاَسْ كَمْ مِيرِي وَالدَّهُ صَاحِبِهِ أُسْ لَاتَّخِي كَمْ لَبِيدَ كَمْ يَأْسِ مَجْهِي لَيْكَرْ كَهْدَرِي مَجْهِي۔

عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں قیامت رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کا سوال کیا تھا اور انہوں نے انکو بھی یہی جواب دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اکبر تھے اور میری ولادت پیشتر ہے۔ (بیہقی)

عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا سوال ٹہرا تھا۔ آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اکبر تھے اور میری ولادت پیشتر ہے۔ (کنز العمال) کنز العمال میں مزید بن الاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے استفسار فرمایا کہ میں بڑا ہوں یا تم۔ عرض کیا کہ آپ اکبر ہیں اور اکرم ہیں اور میری عمر زیادہ ہے۔

اس ادب کو دیکھئے باوجود یہ اس موقع میں لفظ اکبر اور اسن دنوں کے ایک ہی معنی ہیں مگر اس لحاظ سے کہ لفظ اکبر مطلق بزرگی کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے لہذا صراحتہ اس کی لفظی کردی اور محبوراً لفظ اسن کو ذکر کیا کیونکہ صراحتہ مقصود پر دلالت کرنے والا سوائے اس کے کوئی لفظ نہ تھا جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ جن کی تعظیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور حضرت حدیق رضی اللہ عنہ کا ادب میں یہ بدل ہو تو پھر ہم کو کس قدر ادب کا لحاظ رکھنا چاہئے مگر انسوں ہے آج کل کے بعض بے ادب اور گستاخ فرقتوں

پر جو شب و روز آیات و حدیث سے کرید کریں کہ من گھر میں معانی بنائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بے ادبیں کو رشد دهد ایت بخشنے تاکہ وہ بے ادبی اور گستاخی کے باعث دزخ کا ایندھن بننے سے محفوظ رہیں۔ بے اذ خدا خواہیم توفیق ادب! بے ادب محروم نامہ از فضیل رب

## حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا طلاق ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ابوداؤد میں عبد بن فیروز رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے یہیں نے پوچھا کہ کتنے جانوروں کی قربانی درست نہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوتے اور فرمایا کہ چار قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں۔ ایک وہ جس کی انکھ پھوٹی ہو۔ دوسرا وہ جو سخت بیمار ہو۔ تیسرا وہ جس کا لگ نظاہر ہو۔ چوتھا وہ جو شہریت دبلا ہو۔ اس کو آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارے سے تشریح فرمائیں لیکن میری انگلیاں حضرت کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں پہلے دستِ مبارک کے اشارے سے تعبیین فرمادی کہ چار جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں پھر ان کی تفصیل کی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا۔ تو ادب نے اجازت نہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک کی حکایت اپنے ہاتھ سے کی جائے لہذا عذر نظاہر کیا کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کیسا تھے پچھے نہیں ہے۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ چار کا اشارہ ہاتھ سے کرتے ہیں مقصود صرف تعبیین عدد ہے ظاہر ان اس میں کوئی مساوات کا شاہراہ ہے نہ سو ادب کا باوجود اس کے ادب صحابت نے دستِ مبارک کی حکایت کو بھی گوارا نہ کیا جس سے تشبیہ لازم آجائی تھی ساب دوسرے آداب کو اسی پر قیاس کر لینا چاہئے۔

افسوس ان لوگوں کے حال پر جو باوجود مدعا علم ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں فہم سدیم عطا فرمائے تاکہ وہ عذاب

اُخروی سے پچ جائیں۔

## حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ادب رسول اللہ ﷺ

صحیح بخاری میں ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے کسی راستہ میں دیکھا چونکہ میں چنپی تھا۔ اس لئے میں چھپی گیا، پھر غسل کر کے حاضر خدمتِ اقدس ہو گی۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ عرض کیا کہ مجھے نہائے کی ضرورت تھی اس لئے میں نے آپ کے ساتھ بغیر طہارت کے بیٹھنے کو مکروہ سمجھا۔ فرمایا۔

**سُبْحَانَ اللَّهِ أَكَّلَ الْمُؤْمِنَ لَا يَجْنَسُ**  
یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں  
ہیں ہوتا۔

دیکھئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حالت میں جو الگ ہو گئے تو اس سے ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال درجہ کی عظمت اُن کے دل میں موجود تھی جس نے اُن کی عقل کو مقهور کر کے اُن کے دل کو اس ادب پر جبوہ کر دیا تھا اور زود چلتے تھے کہ بخوبی کامیابی میں سر ایت کرتا ایک امر حکمی ہے جسی نہیں جس سے دوسرے کو کراہت ہو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اُس کا اثر دوسرے تک متعادی نہیں ہو سکتا۔

ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکو شریعہ بیان فرمادیا کہ مسلمان نہیں ہوتا مگر کلام اس میں ہے کہ اس حالت میں حاضر ہونے کو انہیں کوئی چیز مانع نہیں۔ اگر تعوذ بالله طبیعت میں بے ناکی ہوتی تو خیال کر لیتے کہ اس حالت میں حالت سے کوئی ممانعت نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی خیال آسکتا تھا کہ جیل کر تو دیکھئے کہ اگر حضور منع فرمائیں گے تو ایک مسٹد معلوم ہو جائیگا۔ خصوصاً اس زمانہ میں کہ ہر روز نئے نئے سائل معلوم ہونے کی ضرورت بھی جاتی تھی۔ بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ ادب نے اُن کو جرأت کرنے تردی۔

پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو مسٹد بیان فرمایا اس سے یہی مقصود معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلکو شریعہ معلوم ہو جائے علاوہ اس کے اگر ان کی یہ حرکت ناگوار طبع مبارک ہوتی تو

تو صاف نہ جبر فرمادیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ مخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔

## حضرت اسلح بن شریک رضی اللہ عنہ کا ادب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تر مقانی نے شرح مو اہب اللہ نیہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اسلح بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پر میں کجا وہ باندھا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے نہانے کی حاجت ہوئی اور جنور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوچ کا ارادہ فرمایا۔ اُسی وقت مجھے نہایت تردد ہوا کہ اگر ٹھنڈے بے پانی سے نہاوں تو ماسے سردی کے مرجانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہے اور یہ بھی گوارا نہیں کہ ایسی حالت میں خاص سواری مبارک کا کجا وہ اونٹی پر باندھو۔ مجبوڑا کسی شخص انصاری سے کہہ دیا کہ کجا وہ باندھے پھر میں نے چند پتھر کھ کے پانی گرم کیا اور نہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ کرام سے جاملاً جنور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اسے اسلح اکیا سبب ہے کہ تمہارے کجا وہ کو میں متغیر نہا ہوں ہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں باندھا تھا۔ فرمایا کیوں ہ عرض کیا اس وقت مجھے نہانے کی حاجت تھی اور ٹھنڈے بے پانی سے نہانے میں جان کا خوف تھا اس لئے کسی اور کو باندھنے کے لئے کہہ دیا تھا۔ اسلح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آئیت نازل ہوئی۔

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ أُلَايَةٌ (سورۃ مائدہ رو ۴۲)

(جس سے سفر میں تیسم کرنے کی اجازت ملی۔ در منثور و طبرانی وغیرہ)

سبحان اللہ کیا ادب تھا کہ جس کجا وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اُس کی لکھیلوں کو حالتِ جنایت میں ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ تھا۔ اگر بنظر النبی دیکھا جائے تو اس کا منشا مخصوص ابیان و کھلائی دے گا جس نے ایسے پاکیزہ خیالات ان حضرات کے دلوں میں پیدا کر دیئے تھے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ نہ عموماً اس قسم کے امور کی تعلیم تھی نہ صراحتہ تغییب و تحریص۔

اپنی صلی جب ان لکڑیوں کا اس قدر ادب کیا گی تو معلوم ہوا کہ انہیاں رواویں کا جسیں  
قدرتی ادب کیا جائے مموجو ہے۔

## امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا طریق ادب رسول اللہ ﷺ

مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو  
دیکھا کہ آپ نہایت ہی بدنی مکھ تھے۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے درود  
کیا جاتا تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور میں نے انہیں کبھی بلا وجہ حدیث بیان کرتے ہیں  
دیکھا۔

## امام مالک بن النس رضی اللہ عنہ کا طریق ادب رسول ﷺ

مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک بن النس رضی  
الله عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے یا اُن کے پاس حضور علیہ الصلوٰۃ  
والسلام کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
کی تعظیم کے باعذت چھک جاتے۔ یہاں تک کہ ان کے ہنسنیوں پر گرائے گز تنا پس آپ سے  
ایک دن اس کا باعذت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

لَوْ دَأْيَتْمَ مَا رَأَيْتُ لَمَّا أَفْكَرْتُمْ  
يعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رفتہ شان اور  
عکسِ مکان جو میں جانتا ہوں اگر تم اُسے جانتے تو بزرگ  
عکسِ ماتشروع ہو۔

تم اپنے دیکھے ہوئے پرانکار رکرتے۔

تمیدِ انہم کہا میں تو پھر جلوہ می آیہ

کہ در پر واڑ آندہ نگ روگھاٹے بُتاڑا

مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام مالک بن النس رضی اللہ عنہ  
جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو پہلے وضو کرتے پھر کپڑے غیرہ  
پہن کر اڑتے ہوتے پھر حدیث شرکیت بیان کرتے اور جب کوئی شخص دروازے پر آتا تو

لوزڈی بھج کر دریافت فرماتے کہ تم کیوں آئے ہو؟ کوئی حدیث پوچھنے آئے ہو یا مسائل فقہ؟ اگر وہ کہتا کہ مسائل فقہ پوچھنے آیا ہو تو اپنی اُسی حالت میں پاہرا گذاشے مسئلہ بتلا دیتے اور اگر وہ کہتا کہ حدیث پوچھنے آیا ہو تو اپنے عقل خانے میں جاکر عقل فنا تے اور نہیں پھرے پہنچتے خوشبو لگاتے، عامر باندھتے، سبز چادر اوڑھتے اور ان کے واسطے خاص اس وقت کے لئے ایک کرسی بچائی جاتی۔ پس اپنے اس پر بیٹھتے اور نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ حدیث بیان فرماتے اور جب تک حدیث بیان کرنے رہتے خوشبو سلگتی رہتی۔

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر تھا اور اپنے حدیث شرافت بیان فرمائے تھے کہ آپ کو بھجوئے سولہ بار کامٹا اور آپ کے چہرہ کا زنگ نزد ہو گیا مگر آپ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسیلیم کی حدیث کا بیان کرنا تھا بھجوڑا، جب آپ حدیث ختم کر چکے اور لوگ چلے گئے تو میں نے دریافت کیا۔ فرمایا کہ آج میرے حدیث بیان کرنے میں بھجوئے سولہ بار کامٹا اور میں نے حدیث کی عظمت و اجلال کے باعث صیر کیا۔

سبحان اللہ! ان حضرات کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا احترام جاگزین تھا کہ سولہ بار بھجوئے اور اُن نے کریں۔ جان جائے۔ مگر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توقیر میں خلل نہ آئے۔ بخلاف اُجھ کل کے بعض مدعاوین علم کے کہ وہ عَدُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکو ہدایت بخشدے۔

## حضرت ابو محمد ذورہ رضی اللہ عنہ کا طرائق ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

حدیث صحیح میں مروی ہے کہ ابو محمد ذورہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں بال اس قدر دراز تھے کہ جب وہ بیٹھتے اور اُن بالوں کو بھجوڑ دیتے تو زمین پر پہنچتے۔ لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ تم نے ان بالوں کو اتنا کیوں بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسوجہ سے ان کو نہیں کٹوانا کہ ایک وقت ان پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دستِ مبارک لگا تھا۔ اس لئے میں نے تبرگا ان بالوں کو رکھا ہوا ہے۔

## خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا طریق ادب رسول ﷺ

حدیث میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لوپی میں حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کے چند موئے مبارک تبرگا تھے۔ ایک جنگ میں آپ کی وہ لوپی گرفڑی۔ آپ نے اُس کے حصول کے واسطے سخت جنگ کی جتنی کہ چند مسلمان بھی اُس میں شہید ہو گئے صحابہ کرام نے انکو الزام دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ فعل لوپی کے واسطے نہیں کیا بلکہ ان موئے مبارک کے واسطے کی وجہ سے میں ہیں تاکہ وہ صالح نہ ہوں اور کفار کے ہاتھ میں نہ جائے پائیں اور مجھ سے اُس کی برکت جاتی نہ ہے۔

## امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ادب رسول ﷺ

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حل میں لکھا ہے۔

فَكَانَ عِنْدَهُ كَشْتِيٌّ مِنْ شَعْدِرٍ  
يعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جناب رسول اللہ ﷺ علیہ الرحمۃ الرحمیة وسلم کے کچھ موئے سَلَّحَ وَ قَدَّامَهُ أَظْفَارِهِ فَأَوْقَنَ  
مرنے لگے تو وصیت کی کہ یہ چیزیں میرے منہ اور اَنْجُدَلَ فِيْهِ فِيمَهُ وَ عَيْنِيْهِ وَ  
آنکھوں میں رکھ دینا اور پھر میرا معاملہ ارجمند  
قَالَ أَفْعَلُوا اذْلِكَ وَ خَلُوَا  
بَلِيْنِيْ وَ بَيْنَ أَدْحَمَ الدَّاجِنِينَ  
کے سپرد کر دینا۔

اس سے ظاہر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان مشکل چیزوں کو خدا کے تعالیٰ کے حضور میں جاتے وقت اپنی تقصیروں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا اور آمید کامل یا ندھلی کہ انکی بد دلت میری مغفرت ہو جائیگی۔ سُجَانَ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَحْكُمُونَ اور کمال عقیدہ سچے مسلمانوں کا۔

## عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مردی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھا پھر اس کو ناچیتے مذہب پر ملا۔

متدرک حاکم میں عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عظمت کے لحاظ سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سرتہ اٹھاتا۔

حضرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روپ و تواسی قسم کا ادب ہوتا ہی تھا لیکن وہ حضرت جب حدیث شریف کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، تو اس خشوع و خضوع کے ساتھ سر جھکائے بیٹھتے تھے۔ کوئی کہ گردنوں پر سر ہی نہیں، چنانچہ متدرک میں ہے کہ عبد الرحمن بن قطرۃ اللہ علیہ رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یاری مسجد میں گیا، دیکھا کہ ایک حلقة میں لوگ اپنے سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ گویا ان کی گردنوں پر سر ہی نہیں۔ یعنی سب لوگ حدیث شریف سشنے والے کچھ ایسے مودبانہ سر جھکائے بیٹھتے تھے کہ گردنوں پر سر نہیں دکھائی دیتے تھے اور ایک صاحب حدیث شریف میاں کر رہے تھے جب غور سے انکو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث رضی اللہ عنہ ہیں۔

اپ ذرا زمانہ کے انقلاب اور طبیعتوں کی زفتاز کو دیکھنا چاہیے کہ بعد خیر القرآن نے لوگوں کو ان حضرات کے مسلک سے کسی قدر دُور کر دیا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے کا کہ معاملہ بالکل بالعکس ہو گیا ہے۔ اس زمانہ میں حالانکہ ان امور کی تعلیم عموماً نہ تھی مگر دللوہی کچھ ایسے مہذب اور مُودب تھے کہ قسم قسم کے آداب اور طرح طرح کے حسن عقیدت پر دلالت کرنے کے افعال خود بخود ان سے ظہور پاتے تھے اور وہ ان کو اصولِ شرعیہ پر منطبق کر دیتے تھے جس کا سمجھنا بھی شاید اس زمانہ میں باسانی نہ ہو سکے، کیون نہ ہو۔ ان حضرات کے دل وہ تھے جن کو تمام بندوں کے دلوں پر فضیلت ہوتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صاحبیت کے واسطے منتخب فرمایا تھا، چنانچہ دیلمی نے ائمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا تو میرے صحاب

کے دلوں سے پاکیزہ تر کوئی دل نہ پایا اسی واسطے ان کو میرے اصحاب ہونے کے لئے پسند فرمایا۔ جو کام وہ اپھا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ اپھا ہے اور جن کو وہ بُرا جانتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ بُر ہے۔

غرض وہ ہر قسم کے آداب کے سب سے اعلیٰ مذکور تھے اور ان پر کوئی اعتراض بھی نہ کرتا تھا اس لئے کہ اسوقت تک بے ادبی کی بنیاد نہ پڑی تھی اور اگرچہ خود رسول نے بنیاد ڈالی بھی تھی تو اس وجہ سے کہ ان کی بد اعتمادیوں نے انکو دائرة اتباع سے خارج اور دوسرے نام کے ساتھ مشترک کر دیا تھا۔ ان کی یا تین کسی کی سمع قبول تک پہنچی ہی نہ تھیں۔

الحاصل خیر القرون کا یہ حال تھا کہ ہر قسم کے آداب کی بنیاد رکھتی جاتی تھی اور اس آخری زمانہ کا حال یہ ہے کہ یا وجود یکہ ان حضرات نے جن کا اتباع بحسب ارشاد شارع علیہ السلام ضروری طرح طرح کے آداب تعلیم کر گئے اگر کسی سے اس قسم کے افعال صادر ہو جائیں تو ہر طرف سے اعتراضات کی پوچھاڑ ہونے لگتی ہے اور صرف اعتراض ہی نہیں بلکہ شرک کے الزام تک نوب پہنچا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادبِ نصیب کرے۔

اذْخُدُّا نَحْنُ هُمْ تَوْفِيقُ اَدَبٍ بَلْ اَدَبٌ مُحْرُومٌ نَانِدُ اَذْفَضِيلٍ رَبٌّ

## حضرت رسول کریمؐ کی تعظیم و تکریم کا زندگی میں اور بعد صدائیں فاہر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنی جیسی آپ کی زندگی میں واجب و لازم ہے دلیل ہے ہی آپ کے وصال کے بعد بھی واجب و لازم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْعِتَدِ لَقَالَ قَالَ لَا يَعْنِي أَبُو بَكْرٍ صَدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَمْ حَضَرَ مِنْ أَوْلَى

يَنْبِيَخْيَ رَفْعَ الصَّوْتِ عَلَيْهِ نَبَّهَ كَمْ كَمْ حَضَرَ مِنْ أَوْلَى

حَدِيثَيْ وَلَا مَعْتَدِيَاهُ كَمْ كَمْ حَضَرَ مِنْ أَوْلَى

روضۃ مبارک کے قریب میخ کاڑ نے پر دُوی عن عائشۃ اُنہا کا نٹ سمع

عَالِمَشَہِ صَدِيقَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمْ تَهَدِيَ حِكْمَ حَمَوْتَ وَتَدِيْ يَوْتَدُ وَالْمَسْحَارُ لِغُرَبِ

فِي الْعَقْدِ الْمُؤْكَدِ وَالْمُتَعَبِّدِ لِلْمَسْجِدِ  
 النَّبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَاتَلُ سَلْطَنَ الْمُهَاجِرَ لَا تَوَذُّدَا  
 وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
 سَلَّمَ  
 دُرِّيَ وَمَا عَمِلَ عَلَيْيَ مِصْرَاعَيْ  
 بَارِبَرِ بِالْمَنَاصِعِ إِلَّا تَوْقِيَّ  
 لِذَلِكَ وَتَادَ بِاً مَعَهُ .

یعنی عائشہ صدیقۃ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ  
 وہ اس کھونٹی کی آواز جو مسجد نبوی کے ارد گرد گھر  
 میں کاری جاتی تھی اور اس منج کی آواز جو مسجد نبوی  
 جاتی تھی سنتی تھیں۔ انہوں نے ان گھروں کے  
 پاس کھلا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تو  
 یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانے دروازے  
 کے کوارٹ اس وعید سے بچنے کے لئے اور رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کیا۔ اپنے طریقے کے  
 بنائے ہوئے تھے۔

## مسجد نبوی میں حلّا کر لوئے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعریری حکم

مسجد نبوی میں اوپنی بولنا ممنوع ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی  
 میں بلند رواز کرنے والوں کو تنیس کی اور داشتہ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔  
 عَنِ السَّارِبِ بْنِ زَيْدِ قَالَ كُنْتُ  
 قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي دُجَلٌ  
 فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَعْمَرَ بْنُ الْخَطَابِ  
 فَقَالَ أَذْهَبْ فَأَشْتَرِيْ بِهِ ذَيْنَ  
 فِيْجِيْتْ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتَمَا أَوْ  
 مِنْ أَنْتَ أَنْتَمَا قَالَ لَا هُنْ أَهْلِ  
 الْطَّائِفَ قَالَ لَوْكُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ  
 الْبَلَدِ لَا وَجَعْتُكُمْ تَرْفَعَا  
 أَهْوَ أَنْكِمْ فِيْ مَسْجِدِ رَسُولِ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 (رواہ البخاری)

اسن حدیث سے ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی شخص آواز بلند نہیں کر سکتا تھا اور اگر کوئی  
کرتا بھی تو مستحب تحریر سمجھا جاتا تھا۔ باوجود یہ سائب بن نبی رضی اللہ عنہ چند اس دوران تھے  
مگر اسی ادب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکارا نہیں بلکہ کنکری یعنی کہ اپنی طرف متوجہ  
کیا۔ یہ تمام ادب اسی وجہ سے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ولاد بحیات اہدی تشریف کرنے  
میں کیونکہ اگر لحاظ صرف مسجد ہوتے کام ہوتا تو فی مسجدِ رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ السلام و  
سلم کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

دوسری قرینہ یہ ہے کہ اس تحریر کو اہل شہر کے لئے خاص فرمایا جن کو مسجد شریف  
کے آداب بخوبی معلوم تھے۔ اگر صرف مسجد ہی کا لحاظ ہوتا تو اہل طائف بھی معذور نہ رکھے  
جاتے کیونکہ آخر دنال بھی مسجدیں تھیں۔

**اما مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ابو جعفر کو مسجد نبوی میں چلا کر ہوئے پڑا**

اما مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت ابو جعفر کو مسجد نبوی میں ان کے باواز بلند رکشے  
پڑا۔ اپنا نچہ در منظم میں ابن حجر ہیشمی اور شفیعی میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہائے بسنہ  
متصل روایت کی ہے۔

عَنْ أَبْنِ حَمَيْدٍ قَالَ نَأَظُرَ أَبُو جَعْفَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَكَ فِي مَسْجِدِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُرْفَعُ  
صَوْتُكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدَبَ قَوْمًا فَقَالَ لَا تُرْفَعُ  
أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضِبُونَ  
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ الْأَيْةُ وَذَمَّمَ قَوْمًا فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَاهُونَكَ  
مِنْ وَرَاءِ الْحِجَرَاتِ الْأَيْةُ وَإِنَّ حُسْنَمَتَهُ مَيْتًا كَحْرَمَتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَبَ  
لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالَ يَا أَبَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَادْعُوا هُرَا سَتَقْبِلُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَ  
هُوَ وَسِيلَتُكَ وَسِيلَةُ أَبِي إِيْدَكَ الْأَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَلْ أَسْتَقِبَلَهُ وَأَسْتَشْفَعُ بِهِ فَيُشَفِّعُكَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَالَىٰ وَلَوْ  
أَنَّهُمْ أَذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ  
لَهُمُ الرَّسُولُ الْآيَةُ

یعنی امیر المؤمنین ابو جعفر منصور نے جو خلفائے عباسیہ سے دوسرا خلیفہ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبوی میں کسی مسجد میں مباح شد کیا جس میں اُن کی آواز صحیحہ بلند ہو گئی، اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تے کہا۔ اے امیر المؤمنین! اس مسجد میں آواز بلند نہ کیجئے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے تادیب کی ایک قوم کی اس آیت شریف میں تیاً یہاں اَلَّذِينَ اَمْتَنَوا كَمْ تَرْفَعُوا  
اَهْنَدَ اَتَكُمْ فَوْقَ حَصَوْتِ النَّبِيِّ لَعْنَیْ بَلْ مُسْلِمًا نَوْا اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یعنی  
میرے حبیب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو! اور درج کی اُن لوگوں کی جو حضور علیہ الصلوٰۃ  
والسلام کے پاس آواز پیٹ کیا کرتے تھے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ حجرات رکوع ایں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَعْنَهُمُونَ اَهْنَدُوا تَهْنِهَ  
يَعْنِي جو لوگ دلی آواز سے بولا کرتے ہیں رسول  
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اَوْ لِلْعِلْكَ الَّذِينَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پاس وہی لوگ ہیں کہ  
اَمَّا تَعْنَى اللَّهُ هُنُوْلُ بَلْهُمْ لِلتَّقْوَىٰ  
لَهُمُ مَتَّخِفِلُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ هُنَّ  
اوہ تقدیمت کی اس قوم کی جو حجّہ کے باہر سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارتے تھے چنانچہ  
اسی سورۃ میں ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ  
لَيْسَنِي اور جو لوگ کہ تجھ کو حجروں کے باہر پکارتے  
الْمُجْرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَهُ  
ہیں وہ اکثر پریقوف ہیں اور اگر وہ حبیر کرتے ہیں تک  
کہ قوانی کی طرف از خود نکلنا، تو ان کے حق  
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ الْهَمْهَمُهُ

اور حضر علیہ الرحمۃ والسلام کی حرمت وصال کے بعد بھی وہی ہے جو قبل وصال کے تھی  
امیر المؤمنین یہ سننے ہی متأذب اور متذلل ہو گئے۔ پھر لوچھا اے ابا عبد اللہ اقبالہ کی طرف متوجہ

ہو کر دعا کروی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی ہے اپنے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے کیوں منہ پھیرتے ہو ؟ وہ تو وسیلہ ہیں اپنے کے اور اپنے کے باب آدم علیہ السلام کے قیامت کے روز تو حضرت کی طرف متوجہ ہو کر شفاعت و سفارش طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت قبول کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اے فرماتا ہے۔

**وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَفْسَدُهُمْ** یعنی اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے اور ظلم  
**جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَ** یہ تھا تو یہ سے پاس آجائے پھر اللہ تعالیٰ اے  
**اسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدَوا** معافی چاہتے اور رسول ان کے واسطے معافی  
اللَّهُ تَوَّاَبًا لَّهُمَّا  
چاہتا تو ضرور پاتے اللہ کو تو بہ قبول کر جو الامہر ہاں

یہاں سے صفات ظاہر ہے کہ جو لوگ مرائب تعظیم اور آداب رسالت کا لحاظ رکھیں گے وہی اس وعدے میں داخل ہیں۔ برخلاف ان کے جو بے ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بولتے ہیں کہ ان کے نیک عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔

مسلمانوں ایں بزرگوں کے اعتمادوں کو دیکھئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کرنے

کے باب میں ان آیات سے استدلال کیا۔

**إِنَّمَا يَهْمَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُرْفَعُوا أَصْنَوْا إِنَّكُمْ فَوْقَ حَمْوَتِ النَّبِيِّ أَوْ رَأَيْتَ**  
**الَّذِينَ يَنْبَدُوْنَكَ مِنْ قَدَّارِ الْجَمَرَاتِ** اور خلیفہ وقت نے پوچھا تھا انہیں کہ قوی حمتوت النبی اور بینادونک کے معنی یہاں کیونکہ صادق آتے ہیں اور اگر اجتنب کیا گیا تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ پھر یہ بھی نہ تھا کہ خلیفہ موصوف کچھ جاہل تھا بلکہ وہ مہماں کا ملکی العقل۔ عالم جمیں اور زادیب اور متدین تھا۔ مگر معلوم نہیں اس استدلال میں کس درجہ کی قوت تھی جس نے خلیفہ وقت کو عین مباحثہ میں ساکت کر دیا۔ اگر اس زمانہ میں کوئی شخص اس قسم کا استدلال کرے تو اس پر سینکڑوں اعتراض کئے جائیں گے۔ علی ہذا اگر کوئی شخص اس استدلال کی نزاکت کونہ سمجھ کر اس میں کچھ کلام کرے تو وہ کوئی مسلمان ہو گا جو معرض کی رائے کو امام مالک کی رائے پر ترجیح دے گا کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جن کے شاگردوں کے شاگرد ہونے پر امام بخاری اور مسلم وغیرہ محدثین کو فخر حاصل ہے عرض اس استدلال

پر صحبت کرنے والا جو اہل مُطلق اور علم سے بے بہرہ ہے۔  
 مسلمانوں ایک مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات سے وہ ادب اتنا باطل کیا کہ اس کی بدولت  
 قیامت تک اہل امیان بہرہ اندوز اور متنقح رہیں گے۔ (جزا لا اللہ تعالیٰ عن لغایۃ المیزان)  
 صحابہ کرام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سجھاری شریف میں ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ  
 کے نام مبارک کے ساتھ بائی کہتے ہیں اس سے مردی ہے کہ امام عطیہ رضی اللہ عنہ کی  
 عادت صحی کہ حبیب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتیں تو بائی دکھنیں خاص پڑھے  
 ام المؤمنین فرماتی ہیں۔

وَقَلَمَا ذَكَرْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْنِي كُم التَّفَاقِ ہوتا تھا کہ ذکر شریف کے وقت  
 وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبْخَاهُ۔ یعنی کم تھا کہ ذکر شریف کے وقت  
 یہ لفظ نہ کہتی ہوئی مخفی اسکے یہ ہیں کہ میرے باپ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے فدا ہوں۔

صحابہ کرام اکثر بائی آنٹے و اُجھی یا رسول اللہ کہرتے تھے۔ چنانچہ کتب احادیث  
 میں موجود ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے اشفاع و مراحم کے رو برو و ہبہ مادری اور شفقت  
 پر رمی کی کچھ حقیقت نہیں ان دونوں کو آپ پر سے فدا کرنا چاہیے۔

سبحان اللہ کیا ادب تھا کہ رو برو تو رو برو غائبانہ و صالح شریف کے بعد بھی وہ  
 ادب مرغی تھا کہ جب بکاف مان باپ کو فدا نہیں کرتے نام مبارک کو ذکر نہیں کرتے تھے۔

آپ کے نام مبارک کا ادب کا قریبی کہتے تھے کیوں نہ بویے نام مبارک وہ تھا کہ جس  
 کے ذکر میں گفار بھی لیسا اوقات متداول ہو جاتے تھے۔ چنانچہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مو اہب الدنیہ میں اور زرقانی رحمۃ اللہ علیہ  
 شرح مو اہب اللہ نیہ میں لکھا ہے کہ ایک جماعت قبلیہ کنڈہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ الفاظ تحریت کے ادا کئے جو اس زمانہ میں سلاطین کے حضور  
 میں کہے جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ محمد بن عبد اللہ  
 ہوں۔ انسوں نے کہا ہم آپ کو نام لیکر نہیں پکاریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابوالقاسم ہوں۔  
 اس پس انسوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم فرمائیے کہ ہم نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہے؟ حضور

علیہ الرحمۃ والسلام نے فرمایا یہ تو کام ہنوں کا کام ہے اور کام ہن اور ان کا پیشہ دوڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچھر کیونکہ معلوم ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تب آپ نے ایک مٹھی کنکریاں آٹھا گئیں اور فرمایا کہ دمکھو یہ گواہی دیتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہو۔ پھر اپنے اُسی وقت لکھریاں دستِ مبارک میں تسبیح کرتے لگیں۔ یہ سن کر حاضرین نے صدق دل سے کلمہ شہادت پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ سب لوگ مشرف باسلام ہوئے۔

ظاہر ہے کہ یہ لوگ قبیل امتحان مشرف باسلام نہیں تھے باوجود واس کے نام مبارک لینے میں ترکِ ادب سمجھا کیا تھجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سچی ادب پسند آگئی ہو جس سے انکو ابد الآباد کے لئے عزت و شرافت حاصل ہو گئی کہ مسلمان ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوئے۔

## امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریق ادب رسول ﷺ

شیخ عبد الحجی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں ارتقا مفرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں پنے گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ میں اسی زمین کو گھوڑے کے سُنم سے رومندی۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں۔ فی الحقيقة وہ زمین پاک نہایت واجب التحظیم ہے۔ بقول حافظ رحمۃ اللہ علیہ سہ بحقا میکہ نشانِ کفت پانتے تو بود  
سالمہ سجدہ صاحبِ نظر ان خواہ بود

## امام بخاری کا طریق ادب رسول ﷺ

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں مرقوم ہے کہ آپ صحیح بخاری کے جمع کرنے کے وقت ہر حدیث لکھنے کے واسطے تازہ غسل کیا کرتے اور دو گانہ نماز پڑھتے

تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اب زرم سے عُسل کرتے اور مقامِ ابراہیم پر دو گانہ پڑتے تھے۔  
چونکہ اس طرح انہوں نے حدیثِ بُوی کی تعظیم اور تقدیر کی ہے۔ اسی وجہ سے  
اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنا فضلِ عظیم دیا ہے کہ تمام مسلمان اُن کو اپنا امام جانتے ہیں۔ اور  
اُن کی تعظیم اور اُن کی کتاب کی وہ قدر ہوئی کہ دنیا میں سولے قرآن مجید کے کسی اور کتاب  
کی الیٰ قدر و منزلت نہیں ہری یہ مقبولیتِ محض ادبِ حدیث کا سبب تھا اور نہ احادیث  
صحیحہ کی اور بھی پیشمار کتاب میں تھیں۔

جموں علمائے اہل سنت والجماعۃ کا اس پراتفاق ہے کہ **احسن الکتب بعد کتاب اللہ**  
**کتاب اللہ کتاب الْغَارِبِي** یعنی تمام کتابوں سے زیادہ صحيح کتاب کتاب اللہ  
کے بعد سجواری کی کتاب ہے۔

## امام شافعی کا طریق ادب رسول ﷺ

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تنزیر الانبیاء عن تشبیه الانبیاء میں امام سبکی  
رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترسیح سے نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض تصافیت  
میں وہ قصہ نقل کیا جو کسی عورت نے کچھ مال چڑایا تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس  
کے لامتحد کاٹنے کا حکم فرمایا اور کسی نے سفارش کی پھر وہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ  
والسلام نے اس وقت فرمایا کہ اگر فلاں عورت بھی دھو ایک شرائیہ تھیں (چڑائیں تو ان کا  
لہجی لامتحد قطع کیا جاتا۔

امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھو کہ حدیث  
شرائیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام مصروف ہے۔ اگر بعینہ حدیث نقل کر دیتے تو کوئی ٹبے جا  
اوہ بے موقع بات نہ تھی لیکن اُپ نے ازراہِ کمال ادب صراحت نام مبارک کو ذکر نہیں۔  
سبحان اللہ کیا ادب تھا، حالانکہ الفاظِ حدیث کو بعینہ نقل کرنا ضروری ہے اور وہ  
نام مبارک جو حدیث شرائیت میں وارد ہے لفظِ کوئے سخت میں ہے، جو علی سبیلِ فرضِ محال  
نہ تھے مگر باہیں ہمچہ چونکہ حدیث شرائیت میں یہ نام مبارک مقامِ توہین میں وارد تھا، اس لئے

ادب نے اجازت نہ دی کہ اُس نام مبارک کو صراحتہ ذکر کریں گو حدیث شریعت میں وارد ہے پسچہ ہے جو مقرر ہیں بارگاہ ہوتے ہیں انہی کو ادب نصیب ہوتا ہے۔ ہر کسی ناکس میں وہ صلاحیت کھاں ہے

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم نامدار فضل رب

## سلطان محمود عزّز نوی کا طرف اور رسول ﷺ

کہتے ہیں کہ غازی سلطان محمود عزّز نوی رحمۃ اللہ علیہؐ کے غلام آیاز کا ایک بیٹا تھا جو شاہ کا طلزم تھا اور اُس کا نام محمد تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے آیاز کی موجودگی میں اُس سے یوں خطاب کیا کہ اس نے آیاز کے بیٹے؟ وضو کا پانی لاو۔ آیاز نے ان الفاظ کو سُن کر دل میں خیال کیا کہ نہ معلوم میرے بیٹے نے کیا خطاب کی کہ جس کے باعث بادشاہ سلامت نے اسکو نام سے نہیں بلایا۔ پس جب سلطان محمود وضو سے فارغ ہوئے تو آیاز کی طرف دیکھا کہ وہ مغموم و ملوک ہے اس سے عتم درجخ کا سبب پوچھا اُس نے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ عالیجا علم امیر سے مغموم ہونے کا باعث یہ ہے پچونکہ حضور نے میرے لختے جگہ کو نام لیکر نہیں بلایا اس لئے معاً میرے دل میں یہ خجال پیدا ہوا کہ شاید اس سے کوئی بے ادبی اور گستاخی سرزد ہوئی ہے کہ جس کے باعث آپ اُس سے خفا اور ناراضی میں۔ بادشاہ سلامت نے مسکرا کر کہا۔ اے آیاز! خاطر جمع رکھ۔ تمہارے صاحبزادے سے کوئی بات میری طبع کے خلاف سرزد نہیں ہوئی اور نہ ہی میں اس سے کسی طرح ناراضی یا خفا ہوں اس وقت نام نہ لینے یہی یہ حکمت تھی کہ میں اس وقت بے وضو تھا، پچونکہ یہ آقاؑ نے نامدار سرویر کو نہیں رحمۃ اللہ علیہں کا ہمنام تھا۔ اس لئے مجھے شرم آئی گہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک الیسی حالت میں میری زبان سے گزرے جب کہ میں بے وضو یا یہ طہارت ہوں۔ و لفغم باقیل۔ سے

نہار بار بشویم دہن مشک و گلاب

ہنوز نامم تو گفتمن کمال بے ادبی است

مسلمانوں اتم کو بھی لازم ہے کہ تم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظیم و توقیر کرو جس طرح بزرگان دین کیا کرتے تھے اور ہر بابت میں آپ کا ادب لمحوظ رکھو جس وقت آپ کا ذکر ہو یا آپ کا نام مبارک لیا جائے یا آپ کا کلام پڑھا جائے یا آپ کے فضائل و محادیبیان کئے جائیں تو نہایت متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ سُنا کرو اور جب تک ایسے مقام میں رہو درود شریف کی کثرت کیا کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشبوی ہے بلکہ حقیقت میں تمہارا لبناہی نقح اور بہیودی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں میں حبیب خدا اشرف انبیاء و محدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت و محبت ڈالے جنور کا سچا تابعدار اور فرمانبردار بنائے اور قیامت میں حضور کی معیت سے شادکام فرمائے۔ آمين ثم آمين۔

دریدہ باشی تشهہ مستجل برآب جاں بجاناں سمجھناں مستتجل است

---

## باب سختم

### فوائدِ ادب بزرگان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت ادب کونگاہ رکھتے تھے ان کو مختص اس ادب سے گفتگو کرنے سے مغفرت گناہان کی خاطر گنہوں کی مغفرت کا پروانہ مل جاتا تھا۔

پھر انجیل اللہ تعالیٰ سورہ حجراۃ رکوع میں ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْضُونَ أَهْمَّوا اللَّهَ مُرْ  
عِنْدَ دَسْوِلِ اللَّهِ أَوْ لِلْأَعْدَادِ الَّذِينَ  
اللَّهُ كَمْ يَكُونُ لَوْلَى مَنْ كَمْ كَرِهَ  
أَمْكَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فِي الشَّوَّافِ  
لَهُمْ مَعْفُورَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ  
جایخ لیا ہے ان کے دلوں کو پر ہنرگاری کیلئے ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

سچان اللہ اکس قدر رحمت اور فضلِ الہی مودتوں کے لئے موجود ہے کہ اگرچہ گنہگار ہوں علاوہ مغفرت گناہ کے بہت بڑے ثواب کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ مہ سرمائی ادب بکف آور کامی متابع آزاد کہ ہست فیضِ ابد آپر ش بدست اس آیتِ شریعت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر کس دن اکس کو ادبِ نصیب نہیں ہو سکتا یہ دولت ان لوگوں کے حصہ میں ولیعہت رکھی گئی ہے جن کے دل امتحانِ الہی میں پورے اترتے ہیں اور جن میں کامل طور پر تقویٰ کی صلاحیت موجود ہے۔

ایک بد کار کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حلبیہ آپی نعیم میں وہب بن منبه سے مردی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا ذکر کئے نام مبارک پر ابو سہ فیض سے بخشنا جانا کرتے ہیں کہ وہ دوسو بر سو تک فسق د

فجور میں مبتلا رہا، تمام لوگ اس کے فتن و فجور سے تنگ آگئے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر بول دیراز کے مزبلہ پر پھینک دیا۔ اُسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نافذ ہوئی کہ آج ہمارے ایک دوست نے دُنیا سے استقال کیا لوگوں نے اس کو بول دیراز میں پھینک دیا ابھی جاؤ اور اُس کی تجهیز و تکفیر کرو اور بنی اسرائیل سے کہو کہ الٰہ اپنی مغفرت چاہتے ہو تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھو، موسیٰ علیہ السلام نے اُس کی مغفرت کا سبب پوچھا۔ حکم ہوا کہ بے شک اُس نے دو سورس کے عرضے میں بے شمار گناہ کئے ہیں اور وہ مغفرت کے لائق بھی نہ تھا مگر بات یہ ہے کہ یہ شخص ایک دن تورات پڑھتا تھا۔ جس وقت اُس نے پیرے جیب کا نام مبارک لکھا ہوا تو یہا فوراً آبیدہ ہو کر اُس نے اُس ورق کو پوسہ دیا اور اپنی امکنوں سے لکھا۔ ہم کو اپنے جیب کی تعظیم و توقیر پسند کی اُسی اور اس تعظیم کی برکت سے اُس کے دو سورس کے گناہ معاوٰت کر دیئے۔ (سیرۃ الحلبی)

اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام مبارک کے مقام پر پوسہ دینے کی برکت سے دو سورس کا گذشتگار جنتی اور مقبول بارگاہ ایزدی ہو گیا۔ پس جب ادب کا یہ ترتیب ہو کہ گذشتہ امت و الٰہ کو اس خوبی کے ساتھ سفر فرانہ کرادے تو قیاس کرو کہ ہم خاص غلاموں کو اس سے کس قدر توقع ہو سکتی ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت کا نام مبارک جس مقام پر لکھا تھا اُس سے برکت حاصل کی گئی اور ادب کی راہ سے اُسکو پوسہ دیکر امکنوں پر رکھا گیا۔ حالانکہ ذات مبارک سے حروف مکتوبہ کو کوئی تعلق نہیں اگر ہے تو صرف اسی قدر کہ حضرت کی ذات مبارک پر وہ دلالت کرنے والا ہے۔ حالانکہ دال اور مدلول میں کوئی ذاتی مناسبت نہیں ہوتی بلکہ صرف وضیع واضح سے یہ دلالت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی اسی لوگوں کے حق میں جو وضع سے واقع ہوں۔ باوجود اس کے اُس نام کے مکتوب سے پوری برکت حاصل ہے۔

حضرت حصلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بزرگ کے احوال میں لکھا ہے کہ اُن کا حدیث شریف کا لکھنا زندگی بھر کا شغل رہا لیکن جس قلم سے لکھنا ہوتا اس کی حدیث لکھنے والے قلم کی تعظیم بھی اس قدر تعظیم منظور تھی کہ اُسکو بناتے وقت تراشنے کے

ریزے زمین پر گرتے اور ضائع ہونے نہ دیتے تھے بلکہ ان کو باحتیاط جمع کر کے محفوظ رکھتے  
جاتے۔ جب ان بزرگ نے وفات پائی تو یہ تراشہ قلم اس قدر صحیح ہو گیا کہ ان کے گھر کے  
لوگوں نے اسی کو جلا کر پانی گرم کیا اور اس سے ان کو عنسل دیا گیا۔

غور کرنا چاہئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک یا آپ کی حدیث  
شریف کا ادب و ترتیب تم تو ایک سمجھ میں آجائے والی بات بھی ہے مگر اس درجہ کا ادب عوام  
کے قیاس سے بھی بالآخر ہے کہ نام پاک کو لکھنے والے قلم کا ہی ادب نہیں بلکہ اس کے اس تراشہ  
کا بھی ادب کیا جائے جو قلم کے فعل تحریر سے پہلے اس سے جدا ہو رہا ہے پسچاہی ہے  
اُنہی اوصافِ کامل نے ان حضرات کو انسان کمال کا مہرِ رخشاں بنادیا تھا۔

**حضرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام**  
اجمیل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لکھے  
ہوئے نام مبارک کو صرف چھمنے سے نظر انی  
**مبارک پر بونہ دینے کا فائدہ** کی فتنہ و تکالیف سے بچ گئے چنانچہ مولانا

روق رحمۃ اللہ علیہ مثنوی معنوی میں فرماتے ہیں ہے

بود در انجیل نام مصطفیٰ! آں سر سعپی بدای بحر صفا!

بود ذکر علیہ ملاؤ شکل او بود ذکر غزو و صوم واکل او

طائف نصرانیاں بہر ثواب چوں رسیدندے بدان نام و خطا

بوسد دادندے برآں نام شریف رونہادندے برآں وصف شریف

مطلب ان اشعار کا یہ ہے کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا

مٹتا جو پیغمبر وی کے سردار اور پاکیزگی کے درجے تھے۔ آپ کا حلیہ شریف بھی اس میں

نہ کوئی تھا اور آپ کی صورت و شکل کا اور آپ کے جہاد اور روزہ اور اکل و شرب

وغیرہ سب امور کا اس میں بیان لکھا یعنی یہوں یہیں سے ایک گروہ کی یہ عادت

تھی کہ جب اس مبارک نام و خطاب پر تلاوت کرتے وقت پنجھتے تو ثواب حاصل کرنے

کو آپ کے اسم شریف پر بونہ دینے اور آپ کے اوصافِ لطیف پر رخسارہ ملتے مجت

و ترتیب میں سے ہے

اندریں قصہ کر گفہیم آئی گزدا! ایکن از فکرہ بُدند و از شکوہ

ایکن از شتر امیر ان و وزیر! در پشاہ نام احمد مسیحی!


فسل ایشان نیز ہم پسیار شد! نام احمد ناصر آمد یا رشد!

یعنی ہم نے جو فکرہ وزیر کا بیان کیا ہے اس قصہ میں وہ لوگ اس عمل کی برکت سے فکرہ وزیر اور خوف صغار بہ امراء سے مامون رہے نہ امراء کا شر بینگ کر ہلاک جماں تھا ان کو بہخیا اور نہ وزیر کا فکرہ افضل کر ہلاک روحاں تھا ان تک آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی خاطیت میں انکو پشاہ مل گئی اور وہن سے ان کی نسل بھی بہت پڑھ گئی ہے حسنہ اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ان کا ناصر اور رفیق ہو گیا۔

نام احمد چوں چنیں یاری کست! تاکہ نورش چوں مددگاری کند!

نام احمد چوں حصارے شہ چنیں تاچہ باشد ذات آں روح الائیں

مولانا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک الیسی رفاقت کرتا ہے تو آپ کا نور مبارک ذات مبارک، بھلا کیسی مدد کرتا ہو گا۔ یعنی حضور کے اتباع سے کس قدر لفظ ہو گا جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک ایسا مستحکم قلعہ ہے کہ نشر و دو قریب آنے نہیں دیتا تو آپ کی ذات مبارک جس کو اور پر نور کہا تھا کیسی کچھ ہو گی غرض اگر تم بھی اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ گے اور ان کا ادب و احترام ہر امر میں نگاہ رکھو گے تو ایسے ہی موردِ افضل و اکرام الہی ہو گے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب پاک کی تعظیم و توقیر کے باعث تھا رہے گناہ بخش دیکھا اور ہمیشہ تمہارے دشمنوں پر نہیں منظر و منصور فرمائے گا۔ ورنہ وعید شدہ ملائی تھبٹ اُنہما لکھر کے مستحق اور غرض و عذاب آہی کے سزاوار ہو گے کہ تعظیم و توقیر حبیب رب تدیر اور احشام (احترام محبوب رب نام علیہ الصلوٰۃ والسلام) تم پر ہر وقت اور ہر امر میں لازم و راجب ہے۔



## حَدِيلُ الْأَيْمَنِ كَأَثْيَاتٍ كَهَذِهِ

مسلمانوں اگر ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام پڑھ کر یا سُن کر بوسہ دیا کریں تو برکات دارین کے مستحق ہو سکتے ہیں یعنی پچھلے ب مضمارات میں مر قوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات کے مشتاق ہوئے تو اللہ تعالیٰ لئے اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جال کو ان کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں جلوہ گرفراہیا انہوں نے اس پر بوسہ دیکر اپنی آنکھوں پر ملا۔ پس یہ سنت ان کی اولاد میں حباری ہر قبیل علیہ السلام نے یہ قصہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا:

مَنْ سَمِعَ اسْمِيْ فِي الْأَذَانِ فَقَبِيلَ  
يُعْنِي جو شخص اذان میں میرا نام سنے اون انگوٹھوں  
ظَفَرَى أَيْمَانِيْهِ وَ مَسَعَى عَلَى  
پر بوسہ دیکر اپنی آنکھوں پر ملے۔ تو وہ کبھی انہیں  
عَيْنِيْهِ لَهُ لَعْنَمَ أَبَدَّاَهُ  
نہ ہوگا۔

ولیمی نے مندرجہ ذیں میں روایت کی ہے کہ حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مودن سے ہے کلمہ اشہدُ اَنَّ مُحَمَّداً اَنْسُولُ اللَّهِ سُفْنَتْ توكہتے۔ اشہدُ اَنَّ مُحَمَّداً اَعْبُدُهُ  
وَ اَسْوَلُهُ دَخْنِیْتُ، بِاللَّهِ دَبَّا وَ بِالْاسْلَامِ دِبِّیَا وَ بِمُحَمَّدِ حَلَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ تَلَیْتُ یا اور بوسہ دیتے کلمہ کی انگلیوں کے باطن پر اور ان کو اپنی آنکھوں پر  
ملتے اور انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ،  
خَلَقْتُ جُو کوئی ایسا کرے جیسا کہ میرے خلیل نے کیا۔ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتُ  
تو اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہوگی۔

علامہ شاہی نے اپنے فتاویٰ کی جلد اول میں باب الاذان میں کنز العباد سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میں شہادت من کر صلی اللہ علیہ وسلم پار بسوں اللہ اور دوسری شہادت سُن کر قرئت علیہ پڑت یا برسوں اللہ کرے اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لکائے اور یہ پڑھے۔ اللَّهُمَّ هَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ تَوْخُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس کو جنت کی طرف رہنا گی کریں گے۔ سد

حضرت **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَادْبِأْ إِيمَانَنَا** ذِي زَيْدٍ آبَار  
صَبَارَكَ فَلَا جُنْحَى لِشَيْءٍ خَيْرٌ مُخْلُقٌ كُلُّهُمْ مُبَارَكٌ

## حضرت حسنی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے مرنے کا زندہ ہو جانا

صحابہؓ کرام کے زمانہ میں ایک عورت صحابہؓ نے خلوص اور صدقہ دل سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام نامی اور اسم کرامی کو ایک مرد نے پڑ لیا جس سے وہ مُردہ زندہ ہو گی پھر اپنے مدارج النبوة میں النَّبِی اللَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ سے مرفوی ہے کہ ایک صحابہؓ کا ایک نوجوان لڑکا تھا جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گردہ جہا جریں میں سے تھا وہ بہیار ہے اور اس پر خالت نزع طازی ہوئی۔ ہم لوگ اُس وقت اُس کے پاس تھے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اُس کی روح نے جسم عنصری سے پرواں کیا ہم نے سُنّت کے موافق اُس کے پاؤں کے انگوٹھے اور مذہب کو بازدھ کر اُس کو چادر اور ٹھوڑی دری کے بعد اُس کی والدہ جو کہمیں باہر گئی ہوئی تھی اگر ہم سے پوچھنے لگی کہ میرے لڑکے کا کیا حال ہے؟ ہم لوگوں نے تعریف کے کلمات ادا کئے پھر اپنے سینہ بعیت میں تعریف کے جو کلمات آئیں ہیں اُس کا مطلب یہ ہے کہ اہل فاتح کو صبر پر دلالت کرے اور میتت کے حق میں دعا نئے مغفرت کرے اغرض جب اُن صحابہؓ کو یقین ہوا کہ میرا لڑکا واقعی مرگیات ہے اس کے سرماں نے اگر کھڑی ہوئی اور برگاہ ربت العالمین یوں عرض کرنے لگی ۹۳ بالله العالمین! تو جانتا ہے کہ میں تیرے حبیب پاک پر ایمان لائی اور اُس کی محبت سے میں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر بھرتت کی۔ اور یہی میرا ایک لڑکا تھا جو اس صنیفی میں میرا کام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اُس کو زندہ کر دے نے النَّبِی

اللَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ جس وقت اُس بی بی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک ہیا، ہم نے بچشم خود دیکھا کہ وہ لڑکا زندہ ہو گیا۔

## ایک شخص کا امام احمد بن حنبل کی تعظیم و ادب کے باعث بخت ہوتا جاتا

مرزوی ہے کہ ایک وفعہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی شہر میں دریا کے کنارے وضو

کر رہے تھے اور ایک اور گنہ گدار شخص آپ کے اوپر کی جانب فاصلہ پر وضو کر رہا تھا وہ شخص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر تعظیم کے لحاظ سے اور پر سے نیچے چلا آیا اور آپ سے نیچے کی طرف بیٹھ کر وضو کی رکھتے ہیں کہ جب وہ شخص استقال کر گیا تو وہ بہشت میں داخل ہوا اس کو جانتے والے ایک ولی اللہ نے اسکو خواب میں دیکھ کر لوچھا کہ تو کس طرح بہشت میں داخل ہوا تو مسخرت گنہ گدار تھا ؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اس تعظیم کے سبب سے مجھے سخشن دیا جو میں نے امام صاحب کے وضو کرنے کی حالت میں کی تھی کہ میں نے ادب کے سبب اور پر کی جانب سے نیچے کی طرف آ کر وضو کیا تاکہ میرا مستعمل پانی آپ تک نہ پہنچے۔

## بزرگوں کی طرف میکھنے والی آنکھوں کا اثر

حکایات الصالحین میں مرقوم ہے کہ ایک دفعہ بصرہ میں بارش کی کی کے باعث قحط پڑ گیا سب شہروں کے تین روز تک پرا پر نمازِ استسقاع کے لئے شہر کے باہر جایا گئے اور شہریت بھر سے گریہ وزاری کی مدد خدا کی شان انسان سے ایک بوونہ تک نہ گری اسی اثناء میں ایک بزرگ زیدہ شخص نے صفت سے اٹھکر گڑا کہ اکہ شہریت الحاج وزاری کے ساتھ یوں دعا کی۔ یا اللہ العالمین اطفیل سر کی دوچیزوں کے بارانِ رحمت بڑا اور اپنے گنہ گدار بندوں کو اس آفتِ قحط سے بچا۔ ابھی وہ یہ کلمات کہتے تھے پایا تھا کہ آنَا فَاتَّا بِادْلٍ نَمُودَار ہو گئے اور موسلا دھار بارش ہوئی شروع ہو گئی۔ حاضرین نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ایک شخص متعجب ہو کر اس مدد خدا سے دریافت کرنے لگا کہ بھائی وہ دوچیزوں سر میں کوئی ہیں جن کی طفیل سے آپ نے بارش کے لئے دعا کی اور وہ اسی وقت قبول ہو گئی۔ اس اللہ کے بندے نے فرمایا کہ مجھا تی جان اسر کی وہ دوچیزوں میری یہ دو آنکھیں ہیں کہ ان سے میں نے حضرت بزرگ زید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے یہ کوئی تھجیب اور حیرانی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک معمولی بات ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ ایک ادنت کرامت ہے سہ اویارا بہت قدرت اذالہ پتیر جستہ بازگردانہ زدہ

## باب ششم

# متفرق ادب

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب کیا کرتے تھے چنانچہ سنن ابو داؤد میں توریت شریف کا ادب کہنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ چند شخص قوم ہوئے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ تفتیک جو اپنے مقام مدینہ کے قریب ہے تشریف لے چلیں چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیت مدرس میں تشریف لے گئے اور مندر پر جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھائی گئی تھی تشریف فرمائوئے پھر انہوں نے عرض کی کہ ہم میں سے ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس بارے میں آپ حکم فرمائیں کہ کیا سترادی جائے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے توریت منگوائی۔ جب وہ لائی گئی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مند سے علیحدہ ہر کو اس پر توریت رکھ دی۔ پھر فرمایا کہ میں تجوہ پر اور جس نے تجھ کو نازل کیا اُسی پر ایمان لایا پھر فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو بلا وجہ تم میں بڑا عالم ہو۔ چنانچہ ایک جگہ آیا اور اُس نے توریت سے رجم کا حکم ثابت کر دیا جس کا یہود کو انکار رہتا۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ با وجود اُس زمانہ میں توریت تحریف و تصحیح سے خالی نہ تھی مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس کا بھی ادب کیا ہے

اذ خدا خواہیم توفیق ادب!

بے ادب محروم ماند اذ فضل رب

**حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیا کی تصور و تکوہنے میں ادب کا لحاظ رکھنا**

مصنف ابن الیشیبہ میں حاب بر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ہم مکہ مظہرہ میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے۔ اُس وقت عین کعبہ شریف اور اُس کے اطراف میں  
تین سو سالہ بُت تھے جن کی پرستش ہوا کرتی تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تینوں کی  
طرف توجہ کی تو جتنے بُت تھے۔ سب سنگوں ہرگئے۔ پھر فرمایا۔

جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ  
بَشِّيكَ بِالْبَاطِلِ تُؤْمِنُ وَ تَابُودُ ۚ إِنَّ  
الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا

رسورہ نبی اسرائیل رکوع ۹

اس کے بعد خانہ کعبہ میں تشریفیت لے گئے اور دو رکعت نماز پڑھکر دیکھا کہ حضرت  
ابراهیم، اسماعیل اور اسحق علیہم السلام کی تصویریں بنی ہوئی ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر  
کے ماتحت میں تیر ہے جس سے کفار فال دیکھا کرتے تھے اور فرمایا خدا ان کو قتل کرے ابراہیم  
علیہ السلام تو تیروں سے فال نہیں آئتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زعفران  
منگرا کر تصویروں کو لگا دیا جس سے وہ مشتبہ ہو گئیں۔

ظاہر ہے کہ یہ تصویریں بھی تبریزی کی قطار میں تھیں جن کی توہین کا حکم ہو چکا تھا  
اور فی الواقع ان تصویروں کو ان حضرات سے نسبت ہی کیا تھی۔ وہ توجہ احمدیوں نے  
این جیعت سے چھے چھا بٹایا تھا، مگر اتنی یات تو ضرور تھی کہ آن حضرت کا نام دریں  
ہنگی تھا جس کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آن کو مٹایا بھی تو معطر زعفران  
سے ورنہ مٹانیوالی چیزوں کی دریں کچھ کمی نہ تھی۔

سُجَانُ اللَّهِ أَكْسَ قَدْرِيَّاً سِ اَدْبَرْ تَحَاكَهْ جَنَابَنْ بَزَرَگَوْنَ كَانَامَ آگَيَّا پَهْرَوَهْ چِيزَ كَسَى درجه کی  
باطل ہی کیوں نہ ہو مگر اس کے ساتھ بھی خاص ایک قسم کی رعایت ادب ہی کی گئی۔  
جب خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جن کا ربہ اللہ تعالیٰ لے کے نزدیک ابراہیم  
علیہ السلام اور تمام انبیاء سے بڑھا ہوا ہے۔ ایسی بے اصل چیز کے ساتھ بلحاظ نام رعایت  
ادب کریں تو ہم آخری زمانہ کے مسلمانوں کو کس درجه کا ادب آن آثار کے ساتھ کرنا چاہیے جن  
کا پیغمبر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا لاکھوں مسلمانوں کے  
عقیدوں سے ثابت ہے اگر ہم نے فرض کیا کہ واقع میں وہ چیزوں منسوب بھی نہیں مگر آخر  
نام تو گیا۔ اس کا لحاظ بھی ضرور ہے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا یہی تعجب ہے اُن

بیوقوفی کی صحیح پرپکھ جو ان عقیدہ والوں کو اٹھا مشرک بناتے ہیں جن سے وہ صحیح تحریکی کی روایت کے مطابق خود کا فہرست ہو جاتے ہیں۔

**لہم میں** حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیت اللہ شریعت کا بڑا اور کیا کرتے تھے چنانچہ  
**اداب قبیلہ** صحیح تجارتی و مسلم میں ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ فرمایا  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

اَذَا اَتَيْتُمُ الْخَارِطَ فَلَا تَسْقُبُوا  
الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدِّرُ وَهَارِبُولٰ  
وَلَا غَارِطٌ ۝

آپ کے ارشاد سے صرف قیلہ کا ادب بیش نظر رہتا۔

طیری، ابو حاتم اور حبید الرزاق وغیرہ نے سرا فہرین حاکم رضی اللہ عنہ سے دراصلت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

رَأَذَا أَفَتَ أَهْمَدُ كُمْرُ الْعَائِطِ فَلَمْ يَكُنْ  
 قِبْلَةَ اللَّهِ فَلَا يَسْتَقِبِلُنَّ الْعِيْلَةَ  
 عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
 جَلَسَ يَوْمَ قَبْلَةَ الْقُبَّةِ نَذَرَ  
 فَتَحَمَّلَ عَنْهَا إِجْبَلًا لَهَا  
 لَقَمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى لَيَغْرُلَهُ

دروده الطبراني وكتنز العمال

اگر عقلى نارسا سے کام لیا جائے تو یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آئے گی کہ ان حالمون میں قبلہ کی طرف منہ یا پیغمبر کرنا منع کیوں نہ رکھنے والا اس مقام میں جہاں سے کعبہ شریعت سننکر دن ہزاروں کوں دوڑ ہو۔ اگر اس موقع میں کوئی شخص کہے کہ کعبہ شریعت از قسم حادثت ہے اور اس کی طرف صرف نماز میں متوجہ ہونا انتہا امر کے لئے کافی تھا۔ ہمیشہ اس کی تعظیم دل میں جائے رکھتا اور

سوائے حالت نماز کے بھی اُس کا ادب کرنا کیا ضرور؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے امور میں عام پوں کی سمجھ کو کچھ دخل نہیں رجروگ آداب ہاں میں ان کی خود طبیعت گواہی دیتی ہے کہ ذواتِ فاقہہ اور اماکن شرائیہ کے ساتھ مہر حالت اور ہر وقت میں خواہ قریب ہوں یا الجید مودب رہنا ضرور ہے اور جس کی طبیعت میں یہ بات نہ ہو اگر طالب صادق ہے تو اس کو اتنا ضرور ہے کہ اس قسم کی تعلیمات میں عذر اور فکر کیا کرے تاکہ معلوم ہو کہ دین میں ادب کی کس قدر ضرورت ہے کسی کامل پڑگنے کیا ہی اچھا کہا ہے ہے

**أَدْبُو النَّفْسِ أَيْهَا الْأَحْبَابُ**      **طُرُقُ الْعُشْقِ كُلُّهَا آدَابٌ**

پائیہ دولتِ اپنے ادب، است

برحدود خداۓ اسٹادن !!

قول و فعل از شنیدن و دیدن !!

باعق و خلق و شیخ و پار و رفیق !!

حرکات جوارح واعض !!

خطرات و خاطر و او لام !!

دین و اسلام در ادب طلبی است

کفر و طغیان و شوم بے ادبی است

جب بیت اللہ شرائیت کو بسبب شرافت اختافت یہ رتبہ حاصل ہو کہ ہر نژاد پک و دُور  
والیے پر اس قسم کا ادب ضرور تھی را یا گیا تو جس کو ذرا بھی بصیرت ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ خاص  
حیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آداب کی کس قدر ضرورت ہوگی۔

## آداب مرشد از مجدد والف ثانیٰ قدس سرہ

بعضی از آداب پیر و شرائط ضروری در  
معرض بیان آورده ہے شود یگوش  
ہوش با پیدش نہ بد انکہ طالب را پایہ  
کہ روئے دل خود را از جمیع جہات

چند آداب پیر اور ضروری شرائط بیان  
کئے جلتے ہیں گوش ہوش سے سنتے  
چاہیں واضح ہو کہ طالب کو  
چاہیے کہ اپنے دل کو سب طرفوں سے

گر دانیدہ متوجہ پر خود سازد با وجود  
پیریے اذن او بنواں لیل واد کار نہ پرواہ د  
کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر  
دوائل اور اذکار میں مشغول نہ ہو اور  
اُس کے روپ و کسی اور طرف التفات  
نہ کرے اور اپنی پوری توجہ سے اُسکے سامنے  
بیٹھئے جی کہ کسی اور ذکر میں بھی مشغول نہ ہو  
گردانیدہ متوجہ پر خود سازد با وجود  
پیریے اذن او بنواں لیل واد کار نہ پرواہ د  
دور حضور او بغیر او التفات نہ پید  
و بلکہ یہ خود متوجہ او بنشیتہ جسی کہ  
اُس کے روپ و کسی اور طرف التفات  
نہ کرے اور اپنی پوری توجہ سے اُسکے سامنے  
دیکھو بات امام ربانی جلد اول

مکتوب نمبر ۱۴۹۳

**حضرت حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ** حضرت حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدان خاص سے تھے۔ انہی کی تحریک سے مثنوی اللہ علیہ کا ادب مُرشد! شریعت کی بُنیاد پڑی اور پھر انہی کی سعی و امداد سے یہ کار عظیم اختیام کو پہنچا۔ مولانا با وجود پیر درشد ہر نے کے ان کا ادب اس طرح بجا لاتے تھے کہ ایک اجنبی یہ سمجھتا تھا کہ مولانا خود ان کے مرید ہیں یعنی اپنے آپ دیباچہ مثنوی میں حضرت حسام الدین چلپی کو ان لفظوں سے یاد فرماتے ہیں۔

لَا سِتْرَ لِغَيْرِهِ وَ سَنِدٌ لِمَنْ مُعْتَدِلٌ وَ مَكَانُ الرُّوحِ مِنْ جَسَدِي  
وَذَخِيرَةٌ لَيْلَيْلٌ وَ غَدَرٌ وَ هُوَ الشَّيْءُ قُدْرَتِهِ الْعَالِمُونَ إِمَامُ الْهُدُوْدِيُّ وَ  
الْيَقِيْنِ الْخَ -

یہ توصیفات کئی سطروں تک پہنچی گئی ہیں لیکن حضرت حسام الدین چلپی اپنے شیخ کی نظر میں اس علوم مرتبت کے باوجود ان کا استقدام ادب بمحظہ رکھتے تھے کہ پورے دس برس کی مدت میں ایک دن بھی مولانا کے وضو خانہ میں وضو نہیں کیا۔ شدت کے جاثرے پڑتے ہوتے اور برف گرتی ہوتی لیکن گھر جا کر وضو کر آتے۔

یہ سچ ہے ان لوگوں نے جو کمالات حاصل کئے رسم ادب ہی کی بدولت حاصل کئے ہے  
با ادب باشی دریں باع کہ ہر کس اینجا  
کے نہ کہ پر سر ہم دست تھرے چینید

# بِاب سَقْمٍ

## طريق ادب

دائرۃ الرحمۃ عزیز شیخ حنفی نقشبندی مجددی مولوی فاضل مؤلف مختار الحکوم شرح  
مشنوی مولانا روم

رسُول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا ادب ملحوظ رکھنا لازم ہے، اس ادب کا طریقہ کیا  
ہے؟ اور کون باتوں میں ادب ملحوظ رکھنا لازم ہے؟ اس کے نظائر مکبرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے  
امثال و سیر میں اور نذر کورہ چکے پھر یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح روح محمدی تمام کائنات میں اپنا  
خاص اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح ادب رسول بھی تمام ادب پر حادی ہے جو شخص جناب رسول اللہ صَلَّی  
اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا ادب ملحوظ رکھتا ہے وہ اپنے والد اپنے اُستاد اپنے مرشد کا بھی ادب کر لیگا جس شخص  
کو حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا ادب کرنا نصیب نہیں۔ وہ اپنے ان تمام بزرگوں کے ساتھ بھی بے ادبی  
سے پیش آتی ہے پھانچہ ریشا بدہ ہے کہ بعض خاص اسلامی فرقے جن کو رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ  
کے ساتھ کمال ادب ملحوظ رکھنے کی توفیق نہیں وہ ائمہ ارجعہ کے ساتھ بے ادبی کرنے میں بھی بذات  
ہیں۔ انہیں قرآن مجید کو بھی فرش پر لپیٹے پاؤں کے پر ابر رکھنے کی جدائت ہے وہ اپنے اس آنڈہ کرام  
کو بھی برابر کے دوستوں کی طرح سمجھنے کے عادی ہیں اور کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانا تو ان کا شبیہہ ہی  
نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشے۔ بے ادبی سے نہ صرف دین ہی ماقص رہتا ہے بلکہ انسانیت بھی  
ماقص ہے۔

آدمی نہاد اگر بے ادب است آدم نہیں است۔ فرق در جنسِ بني آدم و حیوان ادب است  
پھانچہ اور جن چند نظائر میں بعض بزرگوں کے بارے میں اپنے مرشد کا کمال ادب سجا لانا نذر کورہ ہوا  
ہے تو اس کی وجہ پر ہی ہے کہ ان لوگوں کو خدا نے پہلے جناب رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کا ادب

محظوظ رکھنے کی توفیق بخشنی ہے اور اس ادب کی بد و لست ان میں اپنے اساتذہ و مشائخ کا ادب بلطف رکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی ہے اور ادب بالنصیب پرے ادب پرے نصیب۔

جَنَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرَ مَعَهُ فَرَأَيْتَ  
أَدَبَ بَنِي دَرْبِي فَأَحْسَنَ تَادِيْنِي۔ یعنی میرے پروردگار نے مجھے ادب دیا، پس مجھے  
خوب ہی ادب سکھایا۔

اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَرَاتَكَ

قُلْ إِنَّكُمْ تُتَّهِّرُ تَجْهِيْسُونَ اللَّهَ  
إِنَّمَا يَشْعُرُنَّ بِمَحِيمِكُمُ اللَّهُ  
دَوْسَتْ رَكْنَتْ هُوَ تَوْمِيرَ اتِّبَاعَ كَرْدَنَوَالَّهُ جَمِيْعِ تَمَكُّنَتْ  
رَكْهِيْلَكَانَ۔

حدیث بالاس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال ادب کا اعلیٰ المونہ ہیں اور آیت مذکورہ سے ہماں سے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا وجوہ ثابت ہوتا ہے۔ پس تتجهیں مخلک اپنے کے اتباع میں ہم کو بھی کمال ادب کی کوشش کرنی چاہیئے اور سب سے پہلے ہمارا امن یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ادب کے تمام پہلو مرغی رکھنے کی دل و جان سے کوشش کریں۔ پھر ہم اپنے والدین کے لئے با ادب فرزند اور اپنے اساتذوں کے لئے با ادب شاگرد اور اپنے مشائخ کے لئے با ادب مردی بھی ہوں گے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پورا ادب المحظوظ رکھنے کے توبے شمار پڑو ہیں جو صحابہ کرام کے مذکورہ بالا آثار پر غور کرنے سے بڑی حد تک سمجھو ہیں اسکے عین مگر عام طور پر امور ذیل میں ادب کرنا ہر شخص کے لئے واجب العمل ہے۔

۱۔ آپ کی محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد بلکہ خود اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہو اور اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا چنانچہ حدیث میں ہے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَمَا حَتَّىٰ أَكُوْنَ  
أَحَبَّتِ الْمَيِّهِ مِنْ قَالِدَةٍ وَوَلَدَهُ  
وَالْمَنَاسِ أَبْجَجِيْنَ ۚ یعنی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ میں اس کے نزدیک اپنے باپ اور اپنے فرزند اور سارے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔

جامع صحیفہ میں علامہ سید علی نقی نے یہ حدیث نقش کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ادب پا اور کام کو حمد علی الٰئم خصائی یعنی اپنی اولاد کو تم باتوں کا ادب دو، ایک لپنے  
حُبْ تَبَتَّكْرُ حُبْ تَأْهِلُ بَنَيْتَهُ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذہر ہے ان کے  
وَقِيرَاَمَةُ الْقُرْآنِ اَنَّ اَلْمَبِتَ کی محبت کا تیرہ قرآن پڑھنے کا۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ کی محبت خاص مقصد اے ادب ہے۔

۱۴) جو لوگ آپ کی نبی ادبی کرنے کی بُرَاجُوت کرتے ہیں ان کو اس سے روکنا چاہیے جیسے کہ بعض  
لوگ آپ کو بُشَرَجَتْلَانَ سمجھتے ہیں اور بلند اہمگی سے اسی پر محبت کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے  
ہیے باک بھی دیکھے گئے ہیں جو معاذ اللہ باتیں ساتھ کی لاٹھی کو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ رسول اللہ صلی  
الله علیہ وسلم سے اچھی ہے کیونکہ جب یہ کسی کے ناری جانے تو اسے ضرور پہچاہ سکتی ہے۔ لیکن رسول  
الله صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی کو لفظ و ضرر نہیں پہچاہ سکتے ہے ابیے لوگ اگر اس قسم کے  
ہیے ادبی عقائد و اقوال سے باز نہ کیں تو ان کے ساتھ مکالمت اور مباحثت اور مناقحت کے  
تعلقات منقطع کر دینے چاہیں کیونکہ مقام رسالت کے ساتھ ہے ادبی کرنے والوں کے  
ساتھ رہا و رسماً رکھنا جذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضیگی کا باعث ہے سہ  
نظر دوست مدار کند سوئے تو پھر درود سے دشمن بود روئے تو۔

۱۵) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان سے لیں یا کسی بکی زبان سے لیں  
تو فوراً درود پڑھنا چاہیے یعنی کہتا چاہیے۔

صلی اللہ علیہ وسلم یا غلیہ الفضلاۃ فی السَّلَامِ یا هَمَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْہِ  
وَسَلَامُهُ وَعِزَّہُ۔

حضرت علیہ الفضلاۃ والسلام نے فرمایا ہے  
دَغِمَ الْمُتْدَجِلِ ذِرْكُرُتْ ہُمَنَدَ کَ یعنی ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت  
فَلَمْ يُعْمَلْ عَلَيْهِ رَدْوَاهُ التَّوْمَذِيِّ ہے کہ جذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا ہے کہ خاک آسودہ ناک اس آدمی کی جس کے

پاس میں ذکر کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

(د) جب آپ کا نام لکھنے لگیں تو ساتھِ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوٰۃ والسلام یا صرف علیہ السلام لکھنا ضروری ہے۔ آپ کے نام پر درود شرعاً کے اشارہ کے لئے ص یا صلیم لکھنا میرے خیال میں نہ لکھنے سے بدتر ہے کیونکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا جائے اور اُس پر درود تحریر نہ ہو تو وہ سہو پر محوال ہو سکتا ہے لیکن چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ایک بھی تحریر سے کاغذ سیاہ کرنے کی طاقت نہیں اس کا جذبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اسقدر سرد پڑ جکا ہے کہ وہ پورے درود کے دو حروف لکھنے میں بھی اینے وقت کے ایک سینکڑہ کا حجج اور سیاری کے ایک قطرہ کا نقصان گوارا نہیں کر سکتا۔ *فَإِنَّهُ لَثُمَّ أَهْلَ ثُمَّ أَهْلَهَا*۔

نشانِ چاہ کے متعلق ایک اور عام غلطی مروج ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کے نام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام پر مثلاً محمد الدین، محمد علی، محمد خاں، محمد بیگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ لوگ ان پر بھی چنانچہ بنادیتے ہیں۔ حالانکہ اس خصوصیت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ خاص اسی شخص کا نام ہے جس کے لئے اُس کے ماں باپ نے رکھ لیے چنانچہ حدیث شریعت میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سَمْوًا مَارْسَمِي لیخنے میرے نام پر نام رکھو جس سے ظاہر ہے کہ دونوں نام اگل اگل حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان میں عینیت نہیں ہے بلکہ صرف مطابق ہے تو پھر اس پر درود کا اشارہ لکھنے کے کیا معنے ہوں گے؟ کیا اس سے محمد الدین ولد کریم بخش مثلاً یا محمد علی ولد حقوب علی مثلاً یا محمد خاں ولد سکندر خاں مثلاً یا محمد بیگ ولد رستم بیگ پر درود بھینجا مقصود ہے؟ لا حول ولا قوٰۃ الا باللہ۔ یہ لغو کام ہرگز نہ ہوتا چاہیے۔ اس قسم کی غلطیوں سے ملنی جلتی ایک اور غلطی ہے جس میں نہ صرف عوام بلکہ اپھے اپھے خواندہ و فہمیدہ لوگ بھی مبتلا ہیں۔ وہ غلطی عقی عنہ لکھنے کی ہے جس کے مخفیہ ہیں معاف کیا جائے اس سے اس لفظ کو اکثر اصحاب اپنے نام کے ساتھ بطور دعا لکھتے ہیں۔ کتنا ہوں سے معافی بخشنے والا خدا ہے اور اسی دعاء میں اسی سے معافی کی الیکی جاتی ہے، پس مناسب یہ ہے کہ لکھا جائے۔ عَفَا اللہ عَنْہُ یعنی اللہ اُسکو معاف کرے مگر اس ذات اعرف المعروفین کو صیغہ مجہول میں ساقط الذکر کر دیتے کا جو واجہ ہے۔ پر یہ ادبی سے خالی نہیں۔

(۵) جیں خط یا کسی دوسرے کاغذ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج ہو یا محمد الدین محمد غانی وغیرہ کوئی ایسا نام لکھا ہو جحضور کے نام سے مlix ہو تو اس کا ادب کرتا بھی لازم ہے۔ اول توارد و فارسی اور عربی حروف کا مطلقاً ادب ضروری ہے۔ خواہ اس میں کچھ بھی لکھا ہو کیونکہ حدود تجویز تمام اسمائے متبرک کا مادہ تحریر ہیں۔ اور ان میں بہت سی برکات اور اسرار و عجائب مکونہ میں پناپھ قرآن مجید میں ان کا بطور مقطوعات آتنا اور بہت سے تحویلیات و نقوش کا اُن سے پڑ کیا جانا اس پر شاہد ہے۔ مگر جیں عبارت یا تحریر میں خداوند تعالیٰ کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے کوئی اسم درج ہو اس کاغذ کو زمین پر گرنے پڑنے سے محفوظ رکھنا چاہئے اگر زیادہ اہتمام مشکل نظر آئے تو کم رازم آنا ضرور چاہئے کہ ایسے متبرک و قابل عترت اسماء کو کاغذ میں سے کتر کر محفوظ کر دیں۔ ہمارے شناساؤں میں ایک امیر بیکر آدمی ہیں جو صوفی مزاج اور دیندار بھی ہیں۔ اُن کا تفاصیل ہے کہ جب کوئی خط اُن کے نام آتا ہے تو اس کو پڑھ کر تمام متبرک اسماء اس میں سے کتر کر منہ میں ڈال کر کھا جاتے ہیں۔ باقی خط کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں اس قسم کے اعمال کو بظاہر خفیت معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عنور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان کی تھی میں جو کمال عقیدت اپنا کام کر رہی ہے۔ وہ بڑے سے بڑے اعمال صالحہ پر ترجیح رکھتی ہے اور تجویز نہیں کہ وہی آخرت میں باعثتِ نجات ہو جائے۔

نہ نماز آتی ہے مجھے کو نہ وضو آتا ہے!

سر جھکا دیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے

(۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ اُن بزرگانِ دین کا ادب بھی لازم ہے جو شریعت محمد پر علیٰ صاحبِہ السلام والتحفیۃ کے ارکان عظیمے اور اس آسمانِ ہدایت کے تجویز اہمدا ہیں۔ پس سر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور عام اولیاء و صلحاء کے ناموں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ الرحمۃ والغفران یا قدس اللہ سرہ وغیرہ کہتا چاہئے۔ ان کے ساتھ ملنے چلتے اور دعا ٹیکہ کلمات بھی ہیں، مثلاً طاب ثراہ، نور اللہ مرقدہ، برّ اللہ مضبوغہ وغیرہ وہ بھی حسب مراتب استعمال ہو سکتے ہیں۔ عامہ مومنین جو فات پاچکے ہیں۔ اُن کے نام کے ساتھ مرحوم و مغفور بولنا یا لکھنا مناسب ہے۔ غرض شرط ادب یہ ہے کہ صحابہ

سے لیکر عامہ مومنین مکہ سب کو فلائے تھے مراتب نیکی سے یاد کرتا چاہئے ہے۔  
بزرگش سخوانند اہل خلد کے نام بزرگان بزرگشی بردا  
رک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے  
اُن پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کا بھی ادب کیا جائے، چنانچہ اس کے ادب کی باتیں  
یہ ہیں۔

(۱) قرآن مجید کی روزانہ تلاوت باوضو کی جائے۔ تلاوت میں نافعہ کرنا یا بلا وصتو تلاوت  
کرنا بے ادبی ہے۔  
(۲) تلاوت کے اثنایمیں کوئی دنیوی بات نہ کی جائے۔  
(۳) اگر کوئی خاص بات کرنی ہی پڑ جائے تو قرآن مجید کو بند کرنے کے بات کریں۔ یا اس وقت  
اُس پر کوئی پاک ردالدین، چھرد و نمری طرف متوجہ ہوں۔  
(۴) قرآن مجید کو خالی قرآن نہ کہیں بلکہ اس کے ساتھ مجید یا حمید یا امیر لیف وغیرہ کوئی  
موددانہ لفظ ضرور ملا میں۔

(۵) قرآن مجید کو فرش پر لپٹنے قدموں سے اُوپھار کھیں۔ یعنی پا تو لا تھوڑی میں ہو یا رحل  
پر یا چوکی پر یا گود میں۔ بعض بے ادب لوگ جو اسی فرش پر رکھ دیتے ہیں جس پر خود بیٹھتے  
ہیں۔ وہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ خصوصاً بعض باتوں کی کتب فروش اسی قسم کے گناہ کی طرف  
سے بہت لاپرداہی برستے ہیں۔

(۶) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید کو بلا وصتو چھونا بھی جائز نہیں بخوبی  
آیت لا یَسْتَشِدُ إِلَّا مُطَهَّرٌ فَنَّ۔ یعنی اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔  
احضاف کا اسی پر عمل ہے مگر بعض دیگر ائمہ کے نزدیک قرآن مجید کو بلا وصتو چھونا جائز ہے اُن  
کے نزدیک مظہر دن سے فرشتے مراد ہیں انسان اس پر مکلف نہیں۔  
(۷) قرآن مجید یا او اُن بلند پڑھا جا رہا ہو تو اگر وہاں حاضر رہنے کا موقع ہو تو اس کو ٹھنڈا  
فرض ہے کوئی اور بات کرنا درست نہیں۔

(۸) قرآن مجید کھلا ہر تو اُس کی طرف پُشت کر کے جان لیے ادبی میں داخل ہے لہذا اُس

کی طرف مُنہ کر کے پرجستی قہری جانا چاہئے۔  
 (۵) جب تلاوت کے لئے قرآن مجید کو کھولیں تو اُس پر سے غلاف کے آتھے ہی اُسکو  
 بوسہ دینا اکثر زرگوں سے مانور ہے۔

(۶) کتابوں میں قرآن مجید کو سب سے بلند رکھا جائے۔ اگر کبھی کتاب میں نیچے اور پر رکھی ہوں  
 تو ان میں ترتیب یوں ہونی چاہئے۔ سب سے اوپر قرآن مجید اُس سے نیچے تفسیر اس سے  
 نیچے حدیث اس سے نیچے عقائد فقہ اور تصوف کی کتابیں پھر صرف دخواہ و معافی کی کتاب میں سب  
 سے نیچے ادب منطق اور حکمت کی کتابیں۔

(۷) قرآن مجید کی طرح حدیث شریعت کی کتاب کو بھی اپنے قدموں سے بلند رکھیں۔ اس کو  
 پاک و صاف ہو کر پڑھیں مگر یا وضو ہونا شرط نہیں ہاں اگر اس کی پابندی ہو سکے۔ تو بہت اچھا ہے  
 باقی آداب وہی ملحوظ ہمیں جو قرآن مجید کے لئے لکھے گئے ہیں۔

(۸) حدیث کے بعد عقائد اور فقہ کی کتابوں کے لئے بھی وہی آداب ملحوظ رکھنے چاہیں  
 جو قرآن مجید اور حدیث شریعت کے لئے پرد قلم ہوئے ہیں۔

**قرآن مجید کی بے ادبی مولانکے روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی معنوی کے دفتر دوم میں ایک  
 کرنے والے کا اخبار** مجید کا درس ہو رہا تھا اور یہ آیت پڑھی جا رہی تھی۔

إِنَّ أَجْبَحَ مَا أَعْرَكْتُمْ غَوْلًا فَمَنْ  
 يَأْتِي بِكُمْ بِأَدْعَةٍ مَّعِينٍ ۚ

یعنی اگر تمہارا پانی زمین کی پستی کی طرف چلا  
 جائے تو کون ہے جو تمہارے لئے ایسا صاف  
 و شفاف اور پاک و طاہر پانی لا سکتا ہے۔  
 (رسوئہ ملک)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چشمے خشک کر دیں اور پانی زمین کی تہ میں چھپا دیں تو  
 کون ہے جو پانی لاسکے ایک فلسفی منطقی اس وقت درس گاہ کی طرف سے گزر رہا تھا اُس نے  
 سنا تو باواز بلند لپکار کر کہا۔ ۶

ما بُرْخُمْ بِيل و تيز یعنی تبر  
 یعنی اگر پانی کا چشمہ خشک ہو جائے تو ہم چاڑے کے زور اور بیل اور تبر کی ضرب اور تیزی

سے زمین کھو دکر نکال لیں گے۔ یہ بات ہی کیا ہے۔ ہماری منطق ہماری عقل اور ہماری مائن  
ہماری رہبر ہے پھر ہمیں کیا رکاوٹ ہے لیکن جب شام کی تاریخی نے دن کی روشنی پر غلبہ پایا ہے  
**رات آئی ہے**

**شب بخت و دید اویک شیر مرد**      زرد طما نچہ ہر دوچشم کو رکردا!  
لیعنی وہ فلسفی حسب حمول سریا تو اس نے خواب میں ایک شیر مرد کو دیکھا۔ اس نے ایک طما نچہ مار  
کر اس کی دو قوائیں اندازی کر دیں ہے

**گفت زمین دوچشم دچشم لے شقی!**      باقی تو رے بیار از صادقی !!  
اس کو کہا اسے بد بخت اگر تو اپنے قول میں سچا ہے۔ اگر تجھکو اپنے فلسفہ اور منطق پر ایسا ہی ناز ہے  
کہ تو خدا کی ذات کو بھولا بیٹھا اور اس کے کلام پاک کامنہ چڑھاتا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کے دونوں  
چشموں سے فور کو پیدا کر۔ ذرا اتھر تو لا کہاں ہے وہ پیل اور پھاڑڑے نکال اور ان سے چشمیں  
کو کھو دا کر دی، اگر کھڑ جو چاہے کر اور پانی کا ایک قطرہ تو نکال۔ پھر حسب دن نکلا اور وہ فلسفی  
خواب سے بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ میری آنکھیں بے نور ہیں۔ میری چشم بصارت گم ہو  
گئی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ مایوس ہو کر زبان حال سے کہا ہے  
وہ بھی کیا دن تھے کہ تھی چشم بصیرت ملک حملی۔ آج وہ دن ہے پیصرت کیا بصارت بھی نہیں  
غرض یہ پس ادب منطقی اپنے علمی عزودر کے باعث مولائی کریم سے معاف کا خواستگار نہ ہوا اور  
تو بپر کی نعمت سے محروم رہا، مولانا فرماتے ہیں۔ ہے

**گر بنا لیدے و مستغفر شدے**      نور رفتہ اذ کرم ظاہر شدے  
**لیک استغفار ہم در درست نیست**      ذوق توبہ نقل ہر مرست نیست  
لیعنی اگر وہ روتا اور تو بکرتا تو اللہ تعالیٰ اجو رحیم و کریم ہے اپنے فضل و کرم سے اس کا نور رفتہ  
پھر اس سے عطا کر دیتا لیکن وہ بد نصیب توبہ کسی طرح کرتا اور اس کی لذت سے کسی طرح  
آشنا ہوتا۔ یہ بھی تو اس کے اختیار کی بات نہ تھی۔  
**خَسْرَ الدُّنْيَا وَ الْأَخْرَقَرْ**

## تعظیم شعائر اللہ

اللہ تعالیٰ لے فرماتا ہے۔

وَهُنْ يَعْظِمُونَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا  
تُوَيِّدُ دُلُونَ كَيْ پُرہیزگاری سے ہے  
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔

اس آیت سے اشارۃ ثابت ہے۔  
وین اسلام کا تمام ترمذی شعائر اللہ کی تعظیم و ادب پر ہے۔ اگر شعائر اللہ کا ادب دل میں  
مرکوز ہے تو خدا کا خوت بھی ہو گا۔ منہیات و معاصی سے لفڑت بھی ہو گی۔ فراغت و  
واجبات کا شوق بھی ہو گا۔ اور آخرت کی تیاری کا اہتمام بھی ملحوظ ہاظر ہے گا۔ اور یہی  
پانچیں دین کا نجور ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب جمیۃ اللہ  
الیا لغہ کی جلد اول صفحہ ۵۵ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”أَعْلَمُ أَنَّ مَبْيَنَ الشَّرَّ الْحُجَّةِ عَلَىٰ“      یعنی واضح رہے کہ شرائعتوں کی بنیاد شعائر  
”تَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ لَحَافَ لَّهُ“      اللہ کی تعظیم اور ادب کرنے اور ان کے  
”وَالْمُتَقَرِّبُ بِهَا إِلَيْهِ لَحَافَ لَهُ“      ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے پر ہے اسی  
شعائر اللہ کی یعنی جن میں سب سے بڑا درجہ چار شعائر کا ہے۔ جو یہ ہیں۔

ر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ر) نماز

رس) کعبہ شریعت

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے اس کی تصریح  
کی ہے۔ اب خاتمه کتاب میں ہم ہر مسلمان کو بتا کیا توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ راست  
العقیدہ مسلمان اور حصادق النیقین موسن ہونا اور رہنا چاہتا ہے تو وہ ان چاروں شعائر  
اللہ کی تعظیم و ادب کو اپنا سب سے پہلا اور سب سے آخری مقصد سمجھے اور ان کے  
احترام و ادب پر اپنا اہم و راحت اپنا مال و دولت حٹی کہ اپنی حیات و زیست تک

قریان کرنے سے دریغ نہ کرے تھے

حاصل عمر نثار رہ بارے کردیم شادم از زندگی عنویش کا رسے کردیم  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم تو اسی رسالہ کا موضوع لہ ہی ہے اور اسی کے متعلق بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کے ادب و تعظیم کے متعلق بھی چند ضروری باتیں آخری مصنفوں میں حبیطہ سخیر میں آپکی ہیں کعبہ شریفہ کے ادب و تعظیم کا ذکر بھی ضمناً ایک دو چکر گزر چکا ہے۔ اب یہاں چند باتیں نماز اور رساجد کے آداب و تعظیم کے متعلق سپر و قلم کی جاتی ہیں۔ نماز کے تمام منتجات جو کتب فقہ میں مذکور و مطلوب وہ سب در اصل آداب نماز ہیں۔ ان تمام کو پڑھ یا سُن کر عمل میں لانا چاہیے۔ علاوہ ازیں سماں بقدر وضو کے باوجود پھر دوبارہ وضو کر لینا۔ سنتوں کے بعد فرضوں کی جاماعت کی انتظام تک دنیوی کلام سے پرہیز رکھنا اور اپنے عرصہ تک روپی قبلہ پرہیز رکر دکرو۔ فکر میں مشغول رہنا بھی داخل آداب نماز ہے۔

مسجد کے آداب میں سے بعض ضروری آداب یہ ہیں۔ (۱) مسجد میں دنیوی گفتگو نہ کریں (۲)، بلند آواز سے کوئی بات نہ کریں جس میں مسجد کا عدم لحاظ پایا جائے تو ہم غلطی دو قصائد نہ پڑھیں (۳)، متنکر انہ اذاز سے ٹھہرئے نہ پھریں رہ، معزور لوگوں کی طرح لکھنے پر پنڈلی رکھ کر نہ بٹھیں اور نہ کوئی دوسرا مغورانہ وضع اختیار کریں (۴)، لوگوں کے مجھ سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی کسی گم شدہ چیز کی منادی نہ کریں اگر کوئی ایسا کرے تو دوسرا مسلمان کہے خدا کرے تیری گمشدہ بجھے نہ ملے رہے مسجد میں خرید و فروخت نہ کریں (۵)، مخفی محتکف مال کی موجودگی کے بغیر اضطراب اسودا کر سکتا ہے (۶)، مسجد کے بھاؤ و بھار و دیا بستی وغیرہ کی خدمت میں خادم مسجد کا بھاؤ بٹاتے رہیں۔ اور ضروریات مسجد کا اہتمام رکھیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ (۷) وضو کے بعد نماز تحریۃ المسجد پڑھا کریں (۸)، کچا ہیں اور کچا پیاز لکھا کر مسجد میں داخل نہ ہوں اور دوسرا ہر قسم کی بدبو دار چیز کے استعمال سے بھی پرہیز رکھیں جیکہ جلدی مسجد میں جانا ہو۔ (۹) لعاب اور آلاتیں بینی مسجد میں گرانے یا مسکی دیوار و مصلی کے ساتھ پہنچ

سے فتحی پر بزرگ ہیں (۱۲) مسجد میں اینٹ پتھر تنکا کانٹا بال بناخن بیٹے وغیرہ کوئی مکروہ شے دیکھیں تو فوراً اٹھا کر باہر چینیک دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر کی تحریف فرمائی ہے، رسول جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں داخل کریں اور کہیں۔

اللَّهُمَّا فَتَحْ لِي الْبَابَ  
لِعَذَابِ الْهَمَّا مُجْهِرًا بِأَنْجَتِكَ الْمَسْكِنَ  
كھول دے۔

(۱۳) جب مسجد سے نکلنے لگیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں اور کہیں۔  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ  
لِعَذَابِ الْهَمَّا میں تجوہ سے ترافضل چاہتا ہوں  
تمام تعلیمات ادب سے آخری اور جامع باست یہ ہے کہ نہ

طالب صحبت نیکاں شود تو قیق ادب

از خدا خواہ کہ اللہ و لشی التوفیق

لَمَّا

## شانِ نبوت میں گستاخی

مشہور مقولہ ہے کہ "چیزیں اپنی صند سے پہچانی جاتی ہیں" چونکہ اس کتاب کا موضوع آدابِ رسول ہے اور بے ادبی و گستاخی ادب و تعظیم کی صند ہے۔ اس لیے گستاخی کی حقیقت اور اس کی سزا کی نوعیت معلوم کرنے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک یہ کہ ایسے سنگین جرم سے حفاظت اور دیگر اس سے ادب و تعظیم کا جذبہ اُبھرتا ہے آئندہ اور اراق میں جو مضمون آپ کے پیشے نظر ہے، موجودہ دور کے علماء دیوبند میں سے ایک مشہور و معروف عالم مولانا محمد علی کانڈلپوری صاحب کا ہے احقر کے نزدیک اپنے موضوع پر اچھا مضمون ہے اور اس کا انتقال وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے مولانا مذکور کے شکریہ کے ساتھ پیش خدمت ہے

احقر محمد اشرف مجددی

## شانِ نبوت میں گستاخی

لَيَأْتِهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَقُولُوا إِنَّا عَنَّا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا  
وَلَا لِكُلِفَرٍ يُؤْنَى عَذَابُ أَلِيمٌ

لے اہل ایمان ا تم را عُنوانہ کہا کرو، بلکہ انظہرنا کہا کرو اور پھر وہ جو کچھ فرمائیں اسے جویں لگا کر سنو، اور یاد رکھو کہ ان کا فرود کے لیئے دردناک عذاب ہے۔

بُنی اسرائیل کے جرائم کی فہرست میں من جملہ دوسرے جرائم کے ایک سنگین جرم انبیاء کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اس آیت میں قرآن ان کی اسی مجرمانہ ذہنیت کو بتانا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ پہاں ان کی گستاخی کا نشانہ خود ذاتِ نبوت ہے۔ اس لیے قرآن نے عنوان بدلتا۔ پہلے سے اندازہ بیان یہ آئتا ہے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے یوں کیا، تم نے خون بھایا، تم نے انبیاء کی تکذیب کی وغیرہ وغیرہ۔ اور اب عنوان بدلتا کیا، کو اس طرح پیش کیا کہ اے اہل ایمان تم را عُنوانہ کہا کرو۔ یعنی جنابِ نبوت میں گستاخی اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کا مرتكب اللہ کے لئے قابل خطاب بھی نہیں ہے۔ یہاں ان کی گستاخی کیا ہتھی؟ شاہ عبدالقدار صاحب فرماتے ہیں کہ یہود سپہیں کی مجلس بیٹھتے اور حضرت کلام فرماتے۔ یعنی بات جو نہ سنی ہوتی چاہتے کہ پھر تحقیق کریں تو کہتے را عُنوانہ یعنی ہماری طرف بھی متوجہ ہوں۔ ان سے مسلمان بھی کسی وقت یہ کہرتے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو اگر کہنا ہو تو انظرنا کہو، اس کے معنے بھی یہی ہیں اور آگے سنتے رہو کہ پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود کے اس کہنے میں دغاتھی۔ اس کو زبان دبا کر کہتے تو را عینا ہو جاتا یعنی ہمارے چہروں ہے۔ اور ان کی زبان میں را عین الحق کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ یہ تصریح کہ را عُنَانِ ایسا پا لِسْتَ هُمْ یعنی را عُنَا کا فقط اپنی زبان کو مرد کر کہتے یعنی را عُنَا کو را عینا کہتے۔ بات پہلے سے مسلسل چلی آ رہی ہے پہلے

بھی یہودیوں کی شناختوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں بھی ان کی اس خاص شرارت کا تذکرہ ہے۔ مولانا عثمانی فرماتے ہیں۔ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو راعنا کہتے۔ اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک اچھے دوسرے بُرے۔ اچھے معنے تو یہ کہ ہماری رعایت کرو، اور بُرے یہ کہ یہود کی زبان میں یہ کلمہ تحقیر ہے یا زبان دبا کر راعینا کہتے۔ یعنی تو ہمارا چرداہا ہے اور یہ ان کی شرارت تھی۔ آیت میں ان کی شرارت اور گستاخی ہی کو بیان کرنا مقصود ہے۔

لہ۔ راعنا۔ تو ہماری رعایت کر۔ ہمارا خیال کر۔ ہماری طرف کا نہ گا۔ اس صورت میں یہ مراعات سے امر بنا ہے جس کے معنے کسی کی بات پر کان رکھنے اور دوسرے کے حق کی رعایت کرنے کے ہیں۔ دراصل بنی اسرائیل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخازنا کانے کی کوشش کرتے تھے۔ ذو معنی الفاظ بولتے۔ ذرور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے اور ظاہری آداب برقرار رکھتے ہوئے ذر پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے تھے۔ اس خاص نقطے کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک ذو معنی لفظ تھا۔ اس لفظ کا ظاہری معہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے۔ مگر اس میں کئی اختلالات اور بھی تھے۔ مثلاً عیرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنے تھے۔ سن تو بہرہ ہو جائے۔ اور خود عربی میں راعن کے معنے صاحب رعوت اور جاہل واحمق کے بھی تھے۔ اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ ہماری بات سن تو ہم تھاری سنیں۔ اور ذرا زبان کو لپکا دے کر راعینا بھی بنا لیا جاتا تھا۔ جس کے معنے اے ہمارے چرداہے کے تھے۔ اس نئے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو۔

لہ۔ بلکہ انتظرا کہا کر د۔ یعنی راعنا کی بجائے انتظرا کہا کرو اور اس کے معانی بھی دہی ہیں۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو حضور انور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عزت واکام سے مخاطب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پر نظر فرمائیں اور ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ پہلے لفظ میں ذو معنی ہونے کی وجہ سے تو یہ ہو سکتا ہے اور اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بلاغت کی اصطلاحی زبان میں یہ ہے کہ متكلم ذو معنے لفظ بولے۔ متكلم کی مراد کچھ اور ہو

اور مخاطب کچھ اور سمجھے، اور بات میں جھوٹ نہ آنے پائے۔ مثلاً ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضور دصلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سفر پر تھے۔ راستے میں ایک شخص بلا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، نے بات چیخت کی۔ بات چیخت ہی کے دوڑان ملنے والے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ راز اس پر کھولنا نہ چاہتے تھے۔ اس لئے ایسے ذو معنی الفاظ بولے کہ مخاطب کو جواب مل گیا اور راز بھی ظاہر نہ ہوا فرمایا "جَلِيلٌ يَهُدِي إِلَيْكُمْ" مجھے راہ بتانے والا شخص ہے۔ راہ سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی راہ نجات تھی۔ اور سمجھنے والے نے سمجھا کہ اس سفر میں راستہ کا کوئی واقعہ کارہے۔ اس قسم کی تعبیر کو بلا غفت کی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہنی اسرائیل راعت بطور توریہ حضور انور (صلی اللہ علیہ وسلم)، کی شان اقدس میں استعمال کرتے تھے۔ حافظ ابن تیمیہؓ کہتے ہیں کہ یہودی راعناء سے رعونت کے معنے مراد یتیتے تھے۔ گفتگو میں یہ الفاظ بولتے اورہ باہم ایک دوسرے کو دیکھو کر سنتے۔ سعد بن معاذ (رضی اللہ عنہ) اس حرکت کو تاریخ میں بول پڑے بخدا اب اگر تم میں سے کسی کو یہ لفظ بولتے سناؤ تو گردن اُڑاؤں گا یعنی تھے۔ پھر جو کچھ کہیں کان لگا کر سنو یعنی اپنے اہل ہی سے متوجہ ہو کر سنوتاکہ مکرہ پوچھا نہ پڑنے۔ یعنی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات ادب و تعظیم کے ساتھ توجہ سے سنو۔ یہودیوں کو تو باز بار یہ کہتے کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات توجہ سے نہیں سنتے مگر تمہیں اللہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات غور سے سنتی چاہیئے۔

آیت کا حاصل یہ ہوا کہ جناب نبوت میں راعناء بولو کہ یہ ذو معنے لفظ ہے اس سے علامہ ابو بکر ابن العربي نے یہ بات خوب سمجھی ہے کہ جن الفاظ میں اہانت اور بے ادبی کا احتمال بھی ہو بارگاہ رسالت میں ان کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیئے۔ قرطبی بھی یہ بات کہنے میں ابن العربي کے ہم زبان ہیں اور حافظ ابن تیمیہ اس سے دو قدم آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ دل میں رسالت کی تصدیق بالذات استحقاف واستہانت سے مانع ہے۔ الفاظ کا ایسا پیمانہ جس سے نبوت کی جناب میں گستاخی کی بوجھی آتی ہو۔ ایمان سے خارج کروتا ہے۔ اس آیت سے علامہ قرطبی نے اسلامی آئین کی وہ دستوری و فرع بھی معلوم کی ہے،

جس پر بہت سے اسلامی زندگی کے قوانین کا مدار ہے۔ اور اسلامی مملکت میں جن کی اساس پر قانون سازی کی جاتی ہے۔ آئین اسلامی کی اس دستوری دفعہ کو سید فرائع کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس پر تفصیلی بحث پارہ یہ سورہ انعام میں آئے گی۔ یہاں چند اشارات پر اتفاق کیا جاتا ہے۔

فرائع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کسی کام کی لوگوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے تو اس کے حصول کے تمام وسیلے مطلوب ہوں گے۔ اور ایسے ہی اگر اسلام کسی کام سے روکتا ہے تو ہر وہ راستہ جو اس کے کرنے میں معاون و مددگار ہو حرام ہو گا۔ یہ اسلام میں قانون سازی کی اہم دفعہ ہے۔ احناف، مالکیہ اور حنابلہ نے اس پر کافی اعتماد کیا ہے۔ اس کی روشنی میں اگر کوئی امر اسلام میں مطلوب ہے تو وہ سرے درجہ میں اس کے حصول کا ذریعہ بھی مطلوب ہو گا۔ اول ہرنا جائز چیز کے حصول کا ذریعہ بھی ناجائز اور حرام ہو گا۔ اس لئے یہ ذریعہ یا وسیلہ مامور ہے یا منہی عنہ، چیز تک رسائی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتارہی ہے کہ لفظ راعنَا کا استعمال چونکہ جناب نبوت میں گستاخی اور بے ادبی کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اس لفظ کے استعمال پر اللہ سبحانہ کی جانب سے قدغن قائم کر دی گئی ہے۔ بعض معاصر مفسرین کی حس توحید اس قدر تیز ہے کہ انہوں نے اس لفظ سے بھئے شرک سونگھ کر پر فیصلہ کر دیا ہے کہ

اس لفظ سے یہودیوں کا مقصد مسلمانوں میں غیراللہ کے حافظہ و ناصر ہونے کا خیال ٹالنا تھا تاکہ مسلمانوں میں غیر شعوری طور پر شرک کا عقیدہ رائج ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موہم شرک لفظ سے منع کر دیا۔ شرک کی قباحت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اس آیت میں تاویل و توجیہ کا یہ اندازہ صرف یہ کہ منتقل نہیں ہے بلکہ آیت کے مطالب کو مغلکہ خیز بنانے کے متراوف ہے۔ آیت میں راعنَا کے استعمال سے جس بنیاد پر روکا گیا ہے وہ ابھا شرک نہیں بلکہ ذریعہ استخفاف شان نبوت ہے۔ قرطبی لکھتے ہیں: لَأَنَّهُ ذِرْيَعَةٌ لِلشَّتَّى، كَيْوَمَكَيْرَ لِفَظُ حَصْنُورَ كِ شَان میں گستاخی کا ذریعہ ہے۔ الْوَسِی فرماتے ہیں: وَنَهْیٌ الْمُوْمَنُونَ سَدَ الْلَّبَابَ نبوت کی شان میں گستاخی کے دروازے پنڈ کرنے کے لئے راعنَا کے استعمال سے منع کیا

ہے۔ دین کثیر لکھتے ہیں: *نَهْمَى الْمُؤْمِنِينَ عَنِ مِشَابِهَةِ الْكَافِرِينَ قَوْلًا وَفَعْلًا* اللہ نے مومنین کی  
گفتار و کروارہ میں کافروں کی کاپی کرنے سے منع فرمادیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ طرز میں  
درست یہی ہے کہ الشیخ اپنے ایمان کو راعناء کے لفظ استعمال کرنے سے اس لئے  
روکا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کے لئے یہ گواہانہ تھا۔ ابو حیان اندلسی نے جہوں مفسرین کی  
طرف مشوب کر کے لکھا ہے کہ راعناء کے استعمال سے اس لئے روکا گیا ہے کہ اس میں  
بہت بڑا مفسدہ ہے۔ یہ مفسدہ کیا ہے؟ سب کا فیصلہ یہی ہے کہ شانِ نبوت میں گستاخی  
بہر حال بتانا یہ ہے کہ چونکہ اس لفظ کا استعمال ذریعہ ہے شانِ نبوت میں گستاخی کا  
اور نبوت کا مقام آتنا ارفع اور آتنا اعلیٰ اور اولیٰ ہے کہ گستاخی تو در کنار، ان کی جانب  
میں آوانہ کا بلند کرنا بھی تمام اعمال حیات کو اکارت کر دیتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:  
حضرت ابو زر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ گرامی میں بے ادبی بنیادی طور  
پر اللہ کے دین کے منافقی ہے۔ بے ادبی سے احترام اور تعظیم پامال ہو جاتا  
ہے۔ احترام نہیں توجو کچھ نبوت لے کر آئی ہے اس کا بھی کوئی مقام نہیں  
رہتا ہے۔ پورا دین، پورا ایمان حرف غلط ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی بنابران  
کی مدرجہ سراہی، آپ کی تعیض، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر سے بھی سارے  
دین کا قیام وابستہ ہے اور اسنے بھروسی درحقیقت پورے دین سے  
محرومی ہے یعنی  
اور یہ بھی لکھا ہے کہ  
یہ ناممکن ہے کہ جس قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہو  
اس کی زبان پر گستاخی اور بے ادبی ہو۔ احترام اور توہین کبھی یکجا نہیں ہو سکتے  
ہیں۔

بہر حال بتانا یہ ہے کہ رسالت کی ذات سے محبت، آپ کی تعظیم ایمان کا لازم ہے۔  
شانِ نبوت میں بے ادبی بقول حافظ ابن تیمیہ کفر ابلیس سے زیادہ سُکیں جرم ہے۔ قرآن اسی  
جرائم کی طرف جانے والے ذریعہ پر پابندی لگائی ہے۔ ذرائع کا یہ نتیجہ اصول اسلام کی قانون

سازی میں پہے حد قیمتی ہے۔ اس کی کچھ قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو اعلام میں حافظہ ابن القیم کا یہ بیان پڑھئے:

اس میں شبہ نہیں کہ مقاصد تک پہنچنے کے ذرائع اور راستے ضرور ہوتے ہیں اور ان کا حکم بھی مقاصد ہی کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاصی اور محنت سے روک دیتا اور گناہ کی طرف چانے والے راستے کھٹے رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک طرف معاصی سے روکا، اور دوسرا طرف معاصی پر آمادہ کرنے والی چیزوں کو بحال رکھا۔ اور اس طرح تحريم کے حکم کو توڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور اس کے علم صحیط کے سراسر منافی ہے۔

اس موضوع پر ابن القیم نے اعلام میں سیر حاصل بحث کی ہے اور اغاثۃ اللہفان میں مختصر اور علی زندگی میں اسلامی فائز میں پنچ ستمہ لیں پیش کی ہیں۔ آپ بھی کچھ مثالیں مندرجے ہیں۔

فتنه و فساد کے زمانہ میں اسلحہ جنگ پیچا حرام ہے۔ اس لئے کہ ایسے موقع پر ان کا فروخت کرنا شر کی توسیع کا ذریعہ ہے کیونکہ جب فساد ممنوع ہے تو اس کے ذرائع بھی ممنوع ہیں۔

معاشیات کے طالب علم یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اسی اصل کی بنیاب پر امام احمدؓ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے پینے کا ضرورت مند ہے اور یہ چیزیں اس کے طور پر کے پاس موجود ہیں اور وہ دیتا نہیں ہے پہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے تو کھانے یا پانی کے مالک پر اس کا خون پہاں واجب ہو گا۔ حالانکہ اس نے غلطی سے یا عمداً قتل نہیں کیا ہے، مگر چونکہ اس کی ذیمة اندوزہ ایک شخص کی موت کا ذریعہ بنی ہے اس لئے اس پر ویت واجب ہو گی۔

امام احمدؓ اس تاجر سے خریدنا ناجائز سمجھتے تھے جو اپنے پڑوسی تاجر کو لفсан پہنچاتے کے لئے قیمت گھٹا کر فروخت کرے۔ یہ فتویٰ اسی اصل پر مبنی ہے۔ اگر کسی جائز کام سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی ہو تو تجارت فعل بھی ناجائز

حک - ان کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اُسی کہتے ہیں کہ لام عہد کے لئے اور کافرین سے مراوہ یہودی ہیں جنہوں نے شانِ ثبوت میں گستاخی کی ہے۔ اصول کے مطابق بات کا اندازہ تو یہ ہونا چاہیئے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ لیکن ارشاد یہ ہوتا ہے کہ ان کافروں کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شانِ ثبوت میں گستاخی اور بے ادبی انسانیگیں کفر ہے کہ جس کا نتیجہ عذابِ الیم ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

حضرت اُنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا درجہ ہرگز وہ نہیں ہے جو امت کے اہل ایمان کی گستاخی کا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی امت کے تمام افراد سے حقوق میں ایک نمایاں امتیاز رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے۔ جبکہ دوسرا سے اہل ایمان میں سے کسی مومن کی بے ادبی صرف گناہ ہے۔ اور قانون میں سڑا بیس جرائم کے مطابق ہوتی ہیں۔ (الصادر المسأول)

گستاخی توڑی یافت ہے۔ شان بیوت میں تعریض بھی کفر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے عذابِ الیم کی تشریح کرتے ہوئے دُنیا میں گستاخ بیوت کی سزا اس کے وجود سے زمین کو پاک کرنا بتایا ہے۔ اس پر تو آئمہ کااتفاق ہے۔ اخاف، موالک، شوافع اور حنابلہ سب ایک نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو یہ سزا کفر کی بناء پر دی جائے ہی ہے یا یہ حضور اول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی قاذفی سزا یہی ہے۔ اس کی تفصیلات انشاء اللہ پارہ ۲۶ صورۃ جرأت میں آئیں گی۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَعَلٰی اَرْجُوْنِیْ مُتَشَوّیْ کی تشنوی شریف سے مختص جملہ حکایات کا بخوبی

# بہارِ مشنوی

تاکیف

قطبِ وقت حضرت علامہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ

- مؤلف علیہ الرحمۃ کی بہترین اور لا جواب کاوش۔
- علماء، خطباء، طلباء اور مذہبی ذوق رکھنے والے حضرات کیلئے بیشائی حفظ۔
- حکایات اور تشریفات کی زبان میں معرفت و حقیقت کے نادر و نایاب سائل کا حل۔
- سالکوں اور صوفیوں کے لیے تعلیم و تصوف اور مقاماتِ سلوک طے کرنے کا طریقہ۔
- دادیٰ ضلالت میں بھٹکنے والوں کے لیے نیکی اور بدیٰ کے راستے کی وضاحت۔
- معاشرہ کے زخم رسیدہ ناسور وک کی نشانہی اور ان کا علاج۔
- امتوں کے اسبابِ زوال کی توضیح اور کامرانی و شادکامی کا راستہ۔
- شالیقین علم و خرد کے لیے خیر و مشریق فرق کرنے کی میزان۔
- ارشادِ امر کا در در رکھنے والوں اور اصلاحی و تعمیری ذہن کے مالک احباب کے لیے اس کتاب کا مرطع بہت ضروری اور فائدہ نخش ہے۔

جلد اعلیٰ اور مصبوط — طائیل زنگین — قیمت ۲۰ روپے

ٹلنے کا پتہ مکتبہ متحفیہ اقبال روڈ سیالکوٹ پاکستان

## ارکانِ دین

توضیح العائد (درکن دین : حصہ اول)

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر  
پر ایمان کی مستند فضیلات اس میں موجود ہیں۔

کتابِ تلاوت (درکن دین : حصہ دوم)

ہر قسم کی نیاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نازوں کے اوقات و  
سائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی فتنی نازوں کے فضائل و فوائد، باحوالہ۔

کتابِ الزکوٰۃ (درکن دین : حصہ سوم)

زکوٰۃ و عشر کی فضیلت، فضائل وسائل اور مصارف و فوائد غنیمہ پر  
تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتابُ القیام (درکن دین : حصہ چہارم)

رمضان البارک اور پورے سال کے بر قسم کے فرض اور غسل، روزوں کے  
فضائل وسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

کتابِ الحج (درکن دین : حصہ پنجم)

حج و عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کے مستند فضائل وسائل اور ہرمل کی شعی  
جیشیت اور اسرار محبت بھرے امداز میں تحریر فرمائے ہیں۔

— تمام حصے سوال و جواب کے طرز پر انسان زبان میں لکھے ہوتے ہیں۔

— میثیل چہرہ لگانا — طباعت عدہ، کاغذ سفید

**اسلامی کتب خانہ ○ اقبال سیاکوٹ**

## حضرت القدر (دفتر اول)

**مصنف :** کاشف حقائق حضرت خواجہ علامہ بدر الدین سرمندی رحمۃ اللہ علیہ۔  
**مترجم :** حضرت علامہ الحاج المحافظ محمد اشرف تجدوی مدظلہ۔

ذکورہ بالاکتب کے مصنف حضرت امام ربانی حضرت محمد بن الفٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ منظور نظر از قبول بارگاہ خلیفہ ہیں جنہوں نے سترہ سال اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں ہ کر ظاہری باطنی علوم حاصل کیے اور اپنے دور کے ممتاز علماء و مشائخ کی صفت میں داخل ہو گئے۔

اس کتاب میں خلفائے اشیائیں حضرت سلطان فارسی، امام حضرت صادق، حضرت بازرگ سلطانی، خواجہ ابوحنیفہ، خواجہ یوسف پیدائی، خواجہ بهاء الدین نقشبند بخاری، خواجہ یعقوب چرخی، خواجہ باقی بالشیر رحمۃ اللہ علیہم جمیعن اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے دیگر ممتاز بزرگان دین کے حالات، کرامات اور تعلیمات مقدسہ نہایت تفضیل کے ساتھ تحریر ہیں۔

کتابتے اعلیٰ۔ طباعت آفٹے، جلد ڈائی دار، صفحات ۳۳۶، قیمت ۱۰ روپے

## حضرت القدر (دفتر دوم)

**مترجم :** تربیان حقائق دفعہ اس حضرت علامہ اکٹر غلام مصطفیٰ خال نقشبندی سابق فہد شعبہ اردو  
**مدد یونیورسٹی ہائی جیمہ بانڈسٹنڈنگ**

دفتر دوم میں فاضل مصنف نے اپنے مرشد حقائق، پیر لامانی امام ربانی حضرت محمد بن الفٹانی رحمۃ اللہ علیہ اور مفصل حیات مبارکہ، کرامات مقتدرہ اور پیغمبرگوں کی پیش گویاں نہایت شرح و بسط کے ساتھیان کی گئی ہیں نیز آپ کی تعلیمات ارشادات عالیہ اور آپ کے شبانہ روز کے معمولات اور تجدیدی کاظماں کا ذکرہ حسین پیر اعلیٰ میں نہایت تحقیق کے ساتھ کیا گیا ہے۔

علاوه از یہ شرح گرامی کی اولاد اور خلفاء کبار کے حالات، کرامات اور تعلیمات پر سیر حاصل بحث بھی کی گئی ہے۔ بہر حال کتاب ہذا پسندیدہ وقت کے عظیم مصنف امیہ ناز عالم، ممتاز اور بندوقتہ بزرگ کی علمی اور تحقیقی ذہنی کا دوشن کا تجھہ ہے۔ اہل ذوق احباب کے لیے بالعموم اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے مند حضرات کے لیے بالخصوص کتاب ذکورہ کا مطالعہ درویحی فیض حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جہتے جلد منتظر یام پر آجیے ہے۔ — کتابت اعلیٰ، طباعت آفٹ۔ کاغذ سفید

# قابلِ مُطالعہ چند اہم مطبوعات

**شرح قصیدہ امام عظیم**

مولانا محمد عظیم سرود وال

**حضرت القدس اول**

حضرت عالیٰ نقشبندیہ کے مشائخ کے حالات تعلیمات پر بہترین کتاب حضرت خواجہ بدال الدین سریندی فلیفہ حضرۃ مجده الف ثانی

حضرت عالیٰ نقشبندیہ کے مشائخ کے حالات تعلیمات پر بہترین کتاب حضرت خواجہ بدال الدین سریندی فلیفہ حضرۃ مجده الف ثانی

**حضرت القدس دوم**

حضرت عالیٰ نقشبندیہ کے مشائخ کے حالات تعلیمات پر بہترین کتاب حضرت خواجہ بدال الدین سریندی فلیفہ حضرۃ مجده الف ثانی

**زُبُدۃ المتعامیات**

مولانا خواجہ محمد ہاشم کشمی قدس سرہ

**حیات مولانا احمد صناعی**

پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید خواجہ پی. ایچ ڈی

**حضرت امیر ملک اور لمحے خلق امار**

جانب محمد صادق قصوری

**قدم قدم سجدے**

محمد خالد محمد عالد کراچی

**مہر در خشائی**

حضرت فرموداں

**مَكَبَرَةِ مَسَالِكِ طَرَیْ**